

جامع الکرامات

مع اردو ترجمہ

احوال و ملفوظات مخدوم عبدالرشید حقانی

تالیف

شیخ شرف الدین قریشی

ترتیب و تصحیح و ترجمہ

پروفیسر زانا محمد سرور

شعبہ فارسی گورنمنٹ کالج لاہور

ناشر:

اردو بازار، لاہور
بھوانہ بازار، فیصل آباد

مجید بک ڈپو

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

**پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ**



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

جامع الکرامات

مع اردو ترجمہ

احوال و ملفوظات مخدوم عبدالرشید حسنی

تالیف: شیخ شرف الدین قریشی

ترتیب و تصحیح: ڈاکٹر پیر فرید الدین صاحب
شعبہ فارسی گورنمنٹ کالج، لاہور



ناشر

مجید بینک ڈپو، اردو بازار، لاہور

128560

جملہ حقوق بحق مرتب و مترجم محفوظ ہیں

جامع الکرامات مع اردو ترجمہ	کتاب
پروفیسر رانا محمد سرور شعبہ فارسی	مؤلف
گورنمنٹ کالج لاہور	پبلشرز
مجید بک ڈپو اردو بازار، لاہور	پرنٹر
اکنامیکل پریس لاہور	تعداد
پانچ سو	تاریخ اشاعت
یکم دسمبر 1993ء	قیمت

فہرست عنوانات

۵	۱۔ تعارف
۱۳	۲۔ مقدمہ
۳۵	۳۔ فارسی متن
۸۳	۴۔ اردو ترجمہ
۱۵۲	۵۔ کتابیات
۱۵۷	۶۔ اشاریہ

تعارف

لا ریب بندگن خدا کا تذکرہ اور نیک و قیل کفارہ سیات اور ذخیرہ حسنت بلکہ موجب ترقی درجات ہوتا ہے۔ اس سے جذبہ اطاعت، قلبی استحکام اور نیکی پر ثابت قدمی نصیب ہوتی ہے۔ جیسا کہ ارشاد رب العزیز ہے۔

و کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک۔ (سورہ حور)

یعنی پیغمبروں کے حالات جو ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں اس سے ہم آپ کے قلب المرکز کو تقویت بخشنے ہیں۔

مومن خدا میں دو قسم کی قوتیں ہوتی ہیں۔ ایک اثر قبول کرنے کی دوسری اثر کرنے کی۔ پہلی قوت کی وجہ سے وہ بارگاہ الہی سے فیوض و تجلیات کو قبول کرتے ہیں اور دوسری قوت سے وہ ان ارواح و قلوب کو فیض پہنچاتے ہیں جن کا ان سے روحانی لگاؤ اور قلبی مناسبت ہوتی ہے۔ اس لئے اولیاء اللہ کے حالات و واقعات اور مخلوقات کا مطالعہ کرنے والوں کے ارواح و قلوب ان کے انوار و برکت سے منور رہتے ہیں۔

پور قیسن جلتے کہ بندہ کی کوشش حقیر (جس کی تفصیل آئندہ طور میں عرض کروں گا) اور برادر ظہن پروفیسر رانا عمر سرور صاحب کی محنت شاقہ بھی انہی انوار کی برکت ہے کہ پہلی دفعہ جامع الکرامات اپنے فارسی متن اور اردو ترجمے کے ساتھ آپ کے ہاتھ میں ہے۔

اگرچہ اسکا ایک ترجمہ نفع البرکات کے نام سے ۱۹۱۵ء میں سید فرزند علی شاہ صاحب میرپوری مدرس قاری و عربی صلوٰۃ ہائی سکول بہاولپور نے بھی کیا تھا مگر وہ متن سے ہٹا ہوا، فصیح ہے پر اور معنوی انقلاب سے محروم تھا۔ خیال آیا کہ اس کا ایک شستہ سا ترجمہ کر دیا جائے اور اصل قاری متن بھی ساتھ دے دیا جائے۔ ایک تو قاری متن محفوظ ہو جائے گا دوسرے اگر بعد میں کوئی بندہ خدا حضرت مخدوم حقیقی یا آپ کے خاندان پر کچھ لکھنا چاہے تو کم از کم کوئی بنیاد تو موجود ہو۔

اسی خیال کے پیش نظر اس خطا کار نے قلمی نسخے کی تدوین کا کام شروع کیا مگر گورنمنٹ کی ملازمت، درس و تدریس کا سلسلہ اور اہمیت اور خطابت جیسی مصروفیات آڑے آئیں۔ اس دوران میں انہی محترم پروفیسر رانا محمد سرور صاحب سے مسجد میں ملاقات ہوتی رہتی تھی۔ نشست و برخاست کے بعد معلوم ہوا کہ آپ بڑے خوش ذوق، خوش خلق اور علم دوست شخصیت ہیں گورنمنٹ کالج لاہور میں فارسی زبان و ادب کے استلو ہیں اور فارسی مخطوطات سے خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ بندہ سے ہمیشہ بڑی عزت و اکرام اور محبت و الفت سے پیش آتے۔ اسی وجہ سے وہ پلندہ اٹھا کر آپ کے سپرد کر دیا اور اس پر کلام کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے بندہ کی عزت افزائی فرماتے ہوئے اس ذمہ داری کو بخوشی قبول کر لیا۔ آج آپ کے ہاتھ میں جو کتاب موجود ہے دراصل یہ پروفیسر صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے۔ ہم آپ کے ممنون ہیں اور دعاگو ہیں کہ خدائے قدیر آپ کو عزت دارین عطا فرمائے۔ آمین۔

جامع الکرامات مستند کتاب نہیں اور نہ ہی اس کے مؤلف کوئی معروف شخصیت ہیں۔ باین ہمہ اس کے طبع کرانے کا اہتمام کیا گیا ہے آخر کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ سہی بسیار کے بلوجود کوئی کتاب یا دیگر مستند مواد حضور منہوم العالمین کے متعلق نہیں مل سکا حتیٰ کہ وہ ملفوظات جو جامع الکرامات کا ماخذ ہیں ان میں سے بھی بیشتر ناپید ہیں۔ عاجز نے اس سلسلے میں بہت کوشش کی اور طویل سفر بھی کئے۔ زمانہ طالب علمی سے ہی اپنے آباؤ اجداد بالخصوص منہوم عبدالرشید حقلی اور آپ کی اولاد مبارک کے جہلات و واقعات جمع کرنے کی دھن سوار تھی۔ بہت جگہ پہنچا لیکن اکثر کھودا پہاڑ نکلا چوہا والی مثل صلوق آئی۔ کسی جگہ منبع البرکت اردو دیکھنے کو ملی جس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور کہیں معمولی مواد کا سراغ ملا تو انتہائی کنجوسی کا مظاہرہ کیا گیا۔ بعض جگہ تو عجیب باتیں سامنے آئیں جن کے اظہار کا یہ موقع نہیں۔

خوش قسمتی سے فارسی ملفوظ جامع الکرامات جس کا ترجمہ منبع البرکت کے نام سے مشہور ہے مل گئے۔ اگرچہ اس میں بھی رطب و یابس ہے مگر کوئی اور ثقہ اور مستند مواد نہ ملنے کی وجہ سے سردست اسی کے طبع کرانے کو غنیمت سمجھا۔ البتہ کوشش

جاری ہے کہ کوئی جامع اور مستند تذکرہ پیش کیا جائے اگرچہ مختصر ہو۔ انشاء اللہ ضرور کچھ نہ کچھ اس کے علاوہ کتبلی شکل میں عین تک پہنچے گا۔

سوچنے کی بات ہے آخر کیا وجہ ہے کہ حضرت مخدوم حقیقیؒ کے ایک عظیم غنیمت، قطب الاقطاب اور عظیم الشان خاندان کے مورث اعلیٰ ہونے کے باوجود آپ کا کوئی مستند تذکرہ موجود نہیں۔ غالباً اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ کا تعلق صوفیائے کرام کے اس گروہ سے ہے جنہیں اہل عزت کہا گیا ہے۔ اولیاء اللہ میں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دنیا کو بے حقیقت سمجھ کر طلاق دے دی۔ ان کا صحیفہ اور اک غیر کے حرف سے پاک ہوتا ہے۔ ان کے آئینہ دل پر کبھی زنگ نہیں آتا۔ ان کو مشاہدہ حق اس طرح حاصل ہوتا ہے جیسے لوگ چودھویں کے چاند کو دیکھتے ہیں۔ اسی لئے جب آپ زیارت و مجلوت حرمین شریفین اور خدمت شیخ کمال سے واپس تشریف لائے اور حضرت غوث بہاء الدین زکریاؒ نے گہر بار کی ذمہ داری آپ کو سونپنا چاہی تو آپ نے فرمایا ”اے بھائی“ میں مرشد کمال کے حکم کے مطابق دنیا ترک کر چکا ہوں مجھے آبادی کی نسبت جنگل پسند ہے..... عمر کے آخری حصہ میں تو آپ حجرہ نشین ہو گئے تھے اور رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے اور خدمت کے فرائض حضرت مخدوم سلطان ایوب قتل رحمۃ اللہ علیہ انجام دیتے۔ اسی ترک و تجرد کی وجہ سے عوام الناس اور آپ کے مابین رابطہ نہ ہونے کے برابر تھا۔

دوسرے آپ کے اہل خاندان اور متوسلین میں ایسے اہل قلم نہ نکلے جو آپ کے احوال اور کشف و کرامات کے بارے میں آپ کے شاہان شان کچھ لکھتے۔ حضرت ایوب قتلؒ کے محفوظ ضبط تحریر میں آئے جیسا کہ جامع الکرامات میں مذکور ہے لیکن وہ بھی اب دستیاب نہیں۔ اسی لئے آج آپ کے متعلق معلوماتی مواد کی اس قدر کمی محسوس ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں جامع الکرامات کا وجود غنیمت ہے۔

آخر میں ایک ضروری درخواست۔ یہ خطا کار حضرت مخدوم حقیقیؒ اور آپ کے اخلاف اہلو کے بارے میں مزید کچھ جاننے اور اسے زیور طبع سے آراستہ کرنے کا خواہش مند ہے۔ اگر کسی محترم قاری بالخصوص اس خانوادہ عالیہ کے کسی فرد کے پاس




جناب مخدومؒ اور آپ کی لولاد کے بارے میں کوئی مطبوعہ کتب، قلمی نسخہ یا دیگر مولو اور مطبوعات ہوں تو براہ کرم ارسال فرما کر یا صرف مطلع کر کے ممنون فرمائیں۔ نیز بندہ حضرت مخدوم حقیؒ کے خاندان کی مختلف شاخوں کے شجرہ ہائے نسب جمع کر رہا ہے تا کہ انہیں چھپوا کر شائع کیا جاسکے۔ جن حضرات کے پاس مستند نسب نامے موجود ہوں مریانی فرما کر درج ذیل پتے پر رابطہ قائم کریں۔

بندہ بار دیگر پروفیسر رانا محمد سرور صاحب کا ممنون ہے کہ انہوں نے اس احقر کے آبلو اجداد کے حالات پر مشتمل یہ تذکرہ مدن اور ترجمہ کر کے اقلاد عام کے لئے پیش کیا۔

سید مشتاق احمد شاہ قریشی میاں پوری عفی عنہ
استاد عربی گورنمنٹ ہائی سکول
سنت نگر لاہور



۱- مزار مبارک مخدوم عبدالرشید حقانی
واقع قصبہ مخدوم رشید ضلع ملتان



۲- مسجد حقانیہ قصبہ مخدوم رشید

پیشگفتار

عبد مکرم سید مشتق احمد شاہ قریشی نے ایک فارسی مخطوطہ ”جامع الکرامت“ کی عکس نقل میرے ہاتھوں میں تھمتے ہوئے یہ حکم دیا کہ میں اس کا اردو میں ترجمہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا ”یہ میرے آباؤ اجداد کی تاریخ اور بیش قیمت علمی ورثہ ہے۔ اگرچہ مولوی فرزند علی صاحب نے ۱۹۱۵ء میں اس کا ترجمہ منبع البرکت کے نام سے بھولپور سے شائع کیا تھا لیکن ایک تو وہ پر کثف اور پر تصنع ہے۔ دوسرے وہ متن سے ہٹ گیا ہے۔ ترجمہ ایسا ہونا چاہئے جو سلیس، سادہ عام فہم اور متن سے قریب ترین ہو۔ شاہ صاحب کے فرمان واجب للذمات سے انکار کی مجال نہ تھی۔ جب کام ہاتھ میں لیا اور نسخے کی ورق گردانی شروع کی تو معلوم ہوا کہ کتاب واقعی اہم ہے سوچا کیوں نہ ترجمے سے پہلے اس کی تدوین کر لی جائے۔ بے شک اب فارسی پڑھنے والے کم رہ گئے ہیں لیکن فارسی زبان تو زندہ ہے لہذا مخطوطہ کو محفوظ کر لینا چاہئے۔ بس اللہ کا ہم لے کر متن کی صحیح شروع کر دی اور ساتھ ہی ترجمہ بھی۔

تقل کی غرض سے مزید نسخوں کا حصول ضروری تھا۔ سید مشتق احمد شاہ صاحب کے ہاں ایک اور نسخہ ملا۔ اگرچہ یہ ناقص، نامکمل اور نہایت بوسیدہ تھا لیکن پھر بھی صحیح میں اس سے کافی مدد ملی۔

دو مزید نسخوں کا سراغ ملا۔ معلوم ہوا کہ ایک نسخہ جناب نور احمد فریدی ساکن ملتان مؤلف تذکرہ بہاء الدین زکریا ملتانی کے ذاتی کتب خانے میں اور دوسرا جناب صدر الدین شاہ ساکن جمالی وللا نزد بھولپور کے پاس ہے۔

فریدی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بڑی شفقت سے پیش آئے۔ صاحب فرمائش تھی اور صنف غالب تھا۔ آواز میں نقاہت تھی۔ بمشکل یہ سمجھ سکا کہ مطلوبہ نسخہ ان کے کتب خانے میں نہیں وہ یہ بھی نہ بتا سکے کہ تذکرہ حضرت بہاء الدین ملتانی اور تذکرہ حضرت صدر الدین عارف لکھتے وقت انہوں نے جامع الکرامت کے جس نسخے

سے استفادہ کیا وہ کہاں ہے۔ موخر الذکر نسخہ بھی بوجہ نہ مل سکا یوں کل دو نسخے دستیاب ہوئے۔ ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ نسخہ مخزونہ حکیم محمد غوث ساکن مخدوم رشید ضلع ملتان بوساطت سید مشتاق احمد شاہ صاحب، اس نسخے کا نام ”۱“ رکھا اور اسے اسامی نسخہ قرار دیا ہے۔ ترقیم حسب ذیل ہے۔

”بروز پنجشنبہ بوقت ظہر بتاریخ ۲۱ شرمحرم الحرام ۱۳۱۷ ہجرت النبوی صلعم بقلم فقیر محمد بخش ولد میاں کلاو قوم کلال سکنہ چاہ مقیم والا موضع قصبہ مڑلاں علاقہ تحصیل و ضلع ملتان بہ پاس خاطر جناب محمد مسلم شاہ از اولاد حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی علیہ الرحمۃ الغفران ۳۔“

تعداد برگ: ۴۰: تعداد سطر: ۱۵ سے ۱۸ تک خط: نستعلیق خوش۔ سرورق ندارو۔

۲۔ نسخہ مخزونہ ذاتی کتب خانہ جناب سید مشتاق احمد شاہ

برگ: ۱۷: اول کتاب: اقلوہ، تعداد سطر: ۲۱ تا ۲۳ خط: نستعلیق شکستہ درمیانہ باریک ترقیم: تمت تمام شد بروز شنبہ ہشتم محرم ۱۳۱۱ ہجری..... بوقت دوپاس دستخط فقیر..... الدین ولد میاں شمس الدین مرحوم مغفور الرحمن سکنہ موضع بیل تھانہ مترو تحصیل میلی ضلع ملتان چلن مبلغ۔۔۔ چہرہ شہلی ۲ آنہ والہ واللہ اعلم بالصواب عاقبت بالخیر۔

آخر میں مخدوم احمد غوث بن ابوبکر اور مخدوم عبدالرشید حقانی کی اولاد کے نام درخت اور خوبصورت شاخوں اور پتوں کی شکل میں دیئے گئے ہیں۔

۱۔ سید مشتاق احمد شاہ، فاضل درس نظامی، گورنمنٹ ہائی سکول سنت نگر لاہور میں عربی کے استاد ہیں۔ علاوہ ازیں آپ مسجد یوسفیہ رحمانیہ ندیم پارک گلشن راوی لاہور میں خطابت و امامت کے منصب پر بھی فائز ہیں۔ آپ کا تعلق حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی کے خانوادہ عالیہ سے ہے۔ شجرہ نسب کتاب کے آخر میں ملاحظہ فرمائیے۔

۳۔ جناب نور احمد فریدی نے تکرہ حضرت بہاء الدین زکریا لکھتے وقت (۱۹۵۳ء) جس نسخے سے استفادہ کیا۔ اس میں جامع الکرامات کے قلمی نسخے سے چند اقتباسات بڑھانے قاری دیئے ہیں۔ ان سے بعض مقالات پر اختلاف روایت معلوم ہوا۔ یوں راقم نے بلاواسطہ طور پر اس نسخے سے قائمہ شیلیا سے ”سن“ کا نام دیا گیا۔

آئندہ سطور میں میں اپنی کوشش سے تعلق چند باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔

۱۔ قدیم رواج کے مطابق کتب میں مسلسل عبارت تحریر تھی۔ رموز اوقاف کا استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ راقم نے رموز اوقاف کے علاوہ اعراب لگانے کا اہتمام بھی کیا لیکن کمپیوٹر پر کمپوزنگ کرنے والوں نے اعراب لگانے سے معذوری ظاہر کی۔

۲۔ مؤلف نے کتب کو ابواب اور فصلوں میں تقسیم نہیں کیا نہ واقعات وغیرہ کے عنوانات قائم کئے ہیں۔ راقم نے بھی اپنی طرف سے عنوانات کے اضافے کو مناسب خیال نہیں کیا۔ البتہ پیرا بنڈن کر دی ہے تاکہ موضوعات و مطالب خلط ططن نہ ہوں۔

۳۔ حواشی، متن اور ترجمے کے آخر میں دیئے ہیں۔ ہر دو کی عبارات کے درمیان جملہ کوئی وضاحت مطلوب تھی تو سین کے درمیان نمبر دیا گیا ہے اور پھر اسی نمبر کے تحت کتب کے آخر میں ضروری تشریحات دے دی گئی ہیں۔ ان میں اشخاص، مقالات، اصطلاحات سب کے بارے میں معلومات شامل ہیں۔

۴۔ کتب میں جن مشہور بزرگوں کا ذکر آیا ہے ان کے سلسلہ ہای نسب اور سلسلہ ہای بیعت دیئے گئے ہیں۔

۵۔ کتب کو صحیح اور مستحکم کرنے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ اس کے باوجود اگر اغلاط رہ گئی ہوں یا بعض اشکالات رفع نہ ہوئے ہوں تو اسے میری کوتاہی علم سمجھا جائے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ کتب میں بعض ایسے اشخاص کا ذکر ہے جو اپنے زمانوں میں تو معروف تھے لیکن آج کوئی ان کے ناموں اور کارناموں سے واقف نہیں۔ اسی طرح بعض ایسے مقالات کا ذکر ہوا ہے جن کا آج نام و نشان تک نہیں یا

ہن کے نام بدل چکے ہیں۔ میں نے متعلقہ علاقوں کے گزشتہ لور دیگر کتب سے مدد لی ہے۔ اس کے باوجود تصحیحی باقی ہے۔

۶۔ ترجمے کو سلاہ 'رداں' باہلورہ لور عام فہم بنانے کی پوری کوشش کی گئی ہے۔ تاہم متن سے انحراف نہیں کیا گیا۔ کسی ضروری لفظ یا ترکیب کو ترجمہ کئے بغیر نہیں چھوڑا گیا۔

میں جناب مخدوم مشتاق احمد شاہ کا دل سے شکر گزار ہوں جنہوں نے قلمی نغے سیا کرنے کے علاوہ تدوین کے ہر مرحلے پر میری رہنمائی فرمائی۔ نیز اشخاص 'مقلات' واقعات اور اصطلاحات کے بارے میں مفید معلومات بہم پہنچائیں۔

جناب عمر اقبال مجددی کا شکریہ مجھ پر واجب ہے کہ انہوں نے بیش قیمت مشوروں اور معلومات سے نوازا۔

مجلس تحقیق و تالیف کے سربراہ اور شعبہ قاری گورنمنٹ کالج لاہور کے صدر جناب پروفیسر ظہیر احمد صدیقی کے لئے سرکے پاس ہوں جن کی حوصلہ افزائی اور علمی رہنمائی سے اس کتاب کی اشاعت ممکن ہوئی۔ محترم رفیق کار پروفیسر محمد رفیق صاحب نے بعض کتب حوالہ مرحمت فرمائیں جس کے لئے ان کا ممنون ہوں۔

اشاریہ عزیز طالبہ ام لیلیٰ کی کاوش کا مرہون منت ہے۔ بے حد شکریہ

اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دیں۔ آمین۔

رانا محمد سرور

یکم دسمبر ۱۹۹۳ء

مفتی

مقدمہ

صوفیائے کرام اور اولیاء اللہ کے گروہ پامنا کا وجود اہل اسلام کے لئے ہمیشہ نعمت عظیم ثابت ہوا۔ کبھی انہوں نے کفار کے شر و فساد کا مقابلہ کیا تو کبھی مسلمانوں ہی میں سے بد عقیدہ افراد اور علمائے سو کی فتنہ انگیزیوں سے عوام اور خواص کی حفاظت کی۔ ہزاروں لاکھوں غیر مسلم ان پاکباز لوگوں کا حسن اخلاق دیکھ کر اسلام لائے اور راہ گم کردہ مسلمان ان کے کشف و کرامت سے متاثر ہو کر راہ ہدایت پر گامزن ہوئے۔ ان بزرگوں نے اہل اقتدار کے ستائے ہوئے لوگوں کو اپنے دامن عاطفت میں جگہ دی اور جاہ و ظلم پوشاہوں اور امراء کو ظلم سے روکا اور انہیں حق کا راستہ دکھایا۔ انہوں نے خانقاہوں جیسے عظیم ادارے قائم کر کے تزکیہ نفوس کیا، مردہ دلوں کو حیات نو بخشی اور انہیں باطل سے نکل جانے کا حوصلہ دیا۔ ان قدسی صفات انسانوں نے مبلغ اور مجاہد بن کر مسلمانوں کی ڈولتی ہوئی کشتی کو ساحل مراد تک پہنچایا۔ صوفیاء و اولیاء کی تبلیغی ضیا پائیں صرف چند ممالک کے لئے مخصوص نہ تھیں بلکہ انہوں نے خلق محمدؐ کے نور سے دنیا کے وسیع تر حصوں کو منور کیا۔ ان کے مبارک قدم برصغیر پاکستان و ہند، سری لنکا، جزائر شرق الہند، فلپائن، چین، افغانستان، وسط ایشیا، ایران، روس، افریقہ اور دیگر دور دراز علاقوں تک پہنچے اور اسلام کے عالمگیر پیغام کی اشاعت کا ذریعہ بنے۔ ان عظیم اساتذہ نے دینی علوم اور تصوف و عرفان سے قلوب و اذہان کو روشن کیا۔

صوفیاء کے چار مشہور سلسلوں قلدریہ، نقشبندیہ، چشتیہ اور سموردیہ میں سے موخر الذکر سلسلہ عالیہ کا مرکز خطہ پاک ملتان رہا ہے۔ شہر ملتان کی روحانی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے۔ کہ اس میں بلا مبالغہ ہزاروں اولیاء اللہ مدفون ہیں۔ (۱) یہیں حضرت شیخ الاسلام بہاء الدین ابو محمد زکریا سموردی، مخدوم عبدالرشید حقانی، مخدوم سید جلال بخاری، میر حسینی، مولانا فخر الدین عراقی، حضرت شیخ الاسلام صدر الدین محمد عارف، حضرت قطب الاقطاب ابو الفتح رکن الدین ملکانی، حضرت یوسف گردیزی اور دوسرے بے شمار بزرگ کتب و حکمت کی تعلیم اور رشد و ہدایت کے ذریعے

خاص و عام کے لئے قلعہ دارین و ر فوز العظیم کے حصول کا باعث ہوئے۔

حضرت بہاء الدین زکریاؒ - عم زانو مخدوم عبدالرشید حقانیؒ کے حالات زندگی زیر نظر کتاب "جامع الکرامات" کا مضموع ہیں۔ یہ آپ کے ملفوظات بھی ہیں اور ان کی ریاضات و مجاہدات اور کشف و کرامات کا بیان بھی۔ یہ بات کتاب کے ذیلی عنوان "ملفوظ حضرت مخدوم عبدالرشید حقانیؒ قدس سرہ" سے ظاہر ہے۔ آپ اور آپ کے اخلاف اچلو نے نواح ملکن، اضلاع، میلسی، وہاڑی اور ملحقہ علاقوں میں رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس وقت آپ کی اولاد ان اضلاع کے علاوہ پاکستان کے بہت سے شہروں اور دیہات میں رہائش پذیر ہے اور آپ کی نسبت سے مخدوم اور قریشی کے لقب سے طقب ہے۔ علاقہ متان میں موجود مزارات میں سے بہت سوں کا تعلق اس خاندان سے ہے۔ مخدوم سید مشتق احمد شاہ صاحب جن کا ذکر شروع کے صفحات میں ہو چکا ہے نے خانوادہ مخدومیہ - بانئیں اکبر کے ایسے مزارات کی نشاندہی کی جو ملکن کے گرد و نواح میں آج بھی مرجع حقایق ہیں۔

حضرت مخدوم عبدالرشید حقانیؒ کے والد ماجد کا نام شیخ احمد غوثؒ تھا جو حضرت بہاء الدین زکریاؒ کے والد گرامی حضرت محمد غوثؒ کے بڑے بھائی اور حضرت جلال الدین سلیمانؒ (والد گرامی بیافرید گنج شرم) کے مرید تھے۔ آپ کا نسب نامہ یہ ہے۔


حضرت مخدوم حقانیؒ بن شیخ احمد غوثؒ بن شیخ ابوبکرؒ بن شیخ جلال الدین بن شیخ علی قاضی بن شمس الدین محمد بن انیس بن عبداللہ بن الحسن بن المطرف بن خزیمہ بن حلوم بن محمد بن المطرف بن عبد رحیم بن عبدالرحمن بن حبار بن اسود بن مطلب بن اسد بن عبدالعزیز بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن۔۔۔ الی ابو البشر آدم علیہ السلام۔

قصی کے چار صاحبزادے تھے ان میں سے دو کے نام زیادہ مشہور ہیں۔ ۱۔ عبدالمنف، ۲۔ عبدالعزیز۔ عبدالمنف کے صاحبزادے ہاشم کہلائے ان کا اصل نام عمرو تھا۔ (۲)

ہاشم کے صاحبزادوں میں سے دو کے ہاں اولاد ہوئی۔ جناب عبدالمطلب اور جناب

اسد کے ہاں ایک بیٹا حسین ہوا جو لاولد فوت ہوا اور ایک بیٹی قاتلہ جسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ سیدنا عبدالمطلب کے ہاں جناب عبداللہ پیدا ہوئے جو ہمارے پیارے نبی سرور کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ یوں نرینہ اولاد کا تسلسل حضرت عبدالمطلب بن ہاشم سے چلا۔ صرف اسی سلسلے کی اولاد کو قریشی ہاشمی کہہ سکتے ہیں۔ عبدالعزیٰ بن قسی کے صاحبزادے کا نام بھی اسد تھا۔ جو حضرت مخدوم عبدالرشید حقلی اور حضرت بہاء الدین زکریا کے جد امجد ہیں۔ ان کی نسل قریشی لاسدی کہلاتی ہے۔ لیکن یہ ہاشمی نہیں کیونکہ یہ شرف صرف جناب عبدالمطلب کی اولاد کو حاصل ہے۔ اسی لئے صاحب انوار غویہ کا قریشی لاسدی الہاشمی ہونے کا دعویٰ غلط ہے۔

اس نسب نامے کو ہم شجرہ کی صورت میں واضح طور پر دیکھ سکے ہیں۔



تاج حضرت مخدوم حقلیؒ

ہبارہ صحابی رسولؐ تھے۔ (۳) ان کے صاحبزادوں عبدالرحمن اور مالک کو حضرت عثمان غنیؓ نے الجبل (جو بعد میں خوارزم کہلایا) کا علاقہ بطور جاگیر دیا تھا۔ یہی عبدالرحمن حضرت مخدومؒ کے مورث ہیں۔ عبدالرحیم کے علاوہ عبدالرحمن کے ایک اور فرزند زبیر تھے جن کے اخلاف میں عمر نے ۵۲۳۰ھ میں سندھ میں سلطنت ہباریہ قائم کی جو تقریباً دو سو برس تک قائم رہی۔ (۴)

عبدالرحمن کی چھٹی پشت میں تلج الدین (المطرف) مکہ مکرمہ سے خوارزم تشریف لائے۔ (۵) جب سندھ میں ہباریوں کی حکومت ہوئی تو تلج الدین المطرف کی اولاد بھی سندھ آگئی۔ نور احمد فریدی کا کہنا ہے کہ جب وہاں قرامٹیوں نے زور پکڑا اور ہباری سلطنت کمزور ہوئی تو سلطان محمود غزنوی نے قرامٹیوں کو شکست دے کر ان کا زور توڑا اور مخدوم حقلیؒ کے پردادا حضرت جلال الدین کے والد کمال الدین علی شاہ شیخ علی قاضی کو ملکن لے آیا اور انہیں کوٹ کروڑ کا قاضی مقرر کیا بعد میں ان کی اولاد میں سلسلہ قضا چلتا رہا (تذکرہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتکی ص ۳۱) ادھر جامع الکرامات کے مطابق کمال الدین علی شاہ قریشی نہیں بلکہ ان کے والد شیخ شمس الدین پہلے خوارزم سے غزنی اور وہاں سے بغرض جہلا سلطان محمود کے ہمراہ کوٹ کروڑ کی طرف آئے۔ ان میں سے کون سی روایت درست ہے اس کا فیصلہ کرنا مشکل ہے بہر حال یہ امر متفق علیہ ہے کہ حضرت حقلیؒ کے آباؤ اجداد خوارزم سے ملکن آئے محمد قاسم فرشتہ لکھتے ہیں کہ ”کمال الدین علی شاہ قریشی مکہ معظمہ سے خوارزم کی طرف آئے اور وہاں سے تبت الاسلام ملکن میں تشریف لا کر ساکن ہوئے (۶) تاہم وہ بھی یہ نہیں بتاتے کہ وہ کس راستے سے آئے سلطان محمود نے انہیں کوٹ کروڑ کا قاضی مقرر کیا۔ کمال الدین علی شاہ (جنہیں سلطان علی قاضی بھی لکھتے ہیں) کے بعد ان کے فرزند شیخ جلال الدین اور ان کے بعد ان کے صاحبزادے کمال الدین طقب بہ ابوبکر کوٹ کروڑ کے قاضی بنے۔ یہ حضرات بلو شاہ نہیں تھے لیکن منصب قضا پر فائز ہونے کی وجہ سے بااختیار تھے۔ حضرت ابوبکرؒ کے دو صاحبزادے تھے شیخ احمد غوثؒ اور شیخ محمد غوثؒ۔ جامع الکرامات کے مطابق

پہلے شیخ عمر غوث کی شادی حضرت غوث الاعظم عبدالقادر جیلانی کے بیٹے عیسیٰ گیلانی کی صاحبزادی فاطمہ سے اور ان کے بعد شیخ احمد غوث کی شادی فاطمہ کی بہن بنت خاتون سے ہوئی۔ لیکن دوسرے تذکرہ نگار اس سے متفق نہیں۔ ان کا بیان ہے کہ عیسیٰ گیلانی لاولد تھے۔

مرآة الاسرار (۷) 'سیر العارفین (۸) اور تاریخ فرشتہ (۹) وغیرہ کے مطابق شیخ عمر غوث کی شادی مولانا حسن الدین تندی کی صاحبزادی بی بی فاطمہ سے ہوئی تھی جو منگولوں کے حملے کی وجہ سے اپنے وطن تند سے ہجرت کر کے کوٹ کروڑ میں آ مقیم ہوئے تھے۔ ڈاکٹر سید زاہد علی واسطی نے اس تعلق کو رفع کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ "ہماری تحقیق کے مطابق حسام الدین اور شیخ عیسیٰ ایک ہی شخصیت تھے۔ آپ کا لقب عیسیٰ تھا۔" (۱۰) انہوں نے کوئی ثبوت یا حوالہ نہیں دیا اس لئے یہ دعویٰ بے بنیاد معلوم ہوتا ہے۔

مخدوم عبدالرشید حقانی "کوڑ لعل مین خان ضلع لیہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے عمراؤ حضرت بہاء الدین زکریاؒ کا سل پیدائش بروایات مختلف ۵۶۵ھ یا ۵۶۶ھ یا ۵۷۸ھ ہے (۱۱) جامع الکرامات کے مطابق مخدوم عبدالرشید حقانیؒ آپ کے تین سال بعد پیدا ہوئے (۱۲) اس لحاظ سے آپ کا سل پیدائش ۵۶۸ھ یا ۵۶۹ھ یا ۵۸۱ھ نکلا ہے۔ علوم دینی کی تعلیم کوڑ میں مکمل کی۔ بعد میں ملتان تشریف لے آئے اور مستقلاً "قلعہ کہنہ پر رہائش اختیار کر کے رشد و ہدایت میں مشغول ہو گئے۔ جلد ہی دور دور تک آپ کے زہد و ورع اور کشف و کرامت کی شہرت پھیل گئی۔ ایک دن آپ نے خواب میں اپنے والد احمد غوثؒ کو دیکھا جنہوں نے عبدالرشیدؒ کو فرمایا "بیٹا آج سے چار دن بعد تمہارے چچا زاد بھائی بہاء الدینؒ دینی و دنیوی فیوض حاصل کرنے کے بعد بیت اللہ شریف سے ملن آرہے ہیں۔ تمہیں چاہئے کہ اپنی ہمیشہ کا نکاح ان سے کر دو اور خود حرمین شریفین کو روانہ ہو جاؤ تاکہ تمہیں سعادت و نعمت ازلی حاصل ہو (۱۳) چنانچہ جب بہاء الدین زکریاؒ ملتان واپس پہنچے تو حضرت عبدالرشید حقانیؒ نے ان کا استقبال کیا اور اپنی ہمیشہ رشیدہ خاتون کی شادی شیخ الاسلام بہاء الدین زکریاؒ سے کر دی۔ تمام اموال و خزانے جو آپ کی تحویل میں تھے حضرت بہاء الدین کے سپرد کر کے خود روحانی

تعلیم اور حج و زیارت حرمین شریفین کے لئے روانہ ہوئے۔ تین سال روضہ رسول صلعم کی مجلوری کی۔ ایک رات خواب میں حضرت سرور کونین صلعم کی خدمت میں درخواست کی کہ میں آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے کا خواہش مند ہوں۔ ارشاد ہوا ہمدان میں علی ہمدانیؒ سے فیوض و برکات حاصل کرو۔ جامع الکرامات اور غالباً اسی کی پیروی میں سب نے یہی لکھا ہے کہ آپ نے حضرت علی ہمدانیؒ سے روحانی تربیت حاصل کی۔ یہ ممکن نظر نہیں آتا کیونکہ حضرت عبدالرشید حقیقیؒ کی وقت ۶۲۹ھ میں ہوئی (۱۳) اور حضرت علی ہمدانیؒ ۷۳۳ھ میں پیدا ہوئے۔ (۱۵) غالباً یہ ان کے پردلوا ہوں گے جو ان کے ہم نام تھے۔ آپ کے مرشد نے انہیں ہدایت کی کہ ترک دنیا اور تجرید و توکل اختیار کرنا۔ مل و دولت، جائیداد سب راہ حق میں نثار کرنا، اپنا مقبرہ تعمیر نہ کرنا، اولاد میں سے کسی کو اپنا خلیفہ نہ بنانا نہ کسی کو لٹ کپ مرید بنانا۔

ملکن بچے تو حضرت بہاء الدینؒ نے فرمایا کہ جائیداد اور خزانے میں سے اپنا حصہ لے لیں لیکن آپ نے جواب دیا کہ آپ اپنے ربی کے حکم کے مطابق دنیا اور اس کے کارخانے کو ترک کر چکے ہیں۔ ہمیں ان کی ضرورت نہیں لیکن شیخ بہاء الدین کے اصرار پر منظور فرمایا۔ تمام اشیاء اور خزانے ہٹ لئے۔ اراضی کے لئے قرضہ اندازی کی گئی دریائے راوی کے مشرق کا رقبہ حضرت عبدالرشیدؒ کے حصے میں آیا۔ آپ نے فوراً تمام نقد و جنس، مل اسباب اور زمین درویشوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دی۔ یہاں تک کہ رات کے کھانے کے لئے بھی کچھ نہ بچا۔ بعد میں آپ نے ملکن سے دس کوس مشرق میں ابوالفتح اور تلج الدین قوم مڑل سے کچھ زمین خرید کر وہاں کاشتکاری شروع کی اور رہائش کے لئے مکان بھی بنایا۔ اس وقت اس مقام کو ماڑی رشید پور کا نام دیا گیا۔ آج کل یہ قصبہ مخدوم رشید کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں آپ نے عبادت و ریاضت کے لئے مسجد کے ساتھ حجرہ تعمیر کرایا، کتواں کھدوایا جس کا پانی مریضوں کو شفا دیتا ہے۔ آپ نے چار شلوایاں کیں۔ اول حضرت بہاء الدین زکریاؒ کی ہمیشہ بی بی کمال خاتون سے، دوسری بلوشاہ محمد تعلق کی صاحبزادی معظم خاتون سے، تیسری رائے الوناکھی کی دختر سے اور چوتھی ”قوم مڑل میں (۱۶) میں“ ہوئی۔ آپ نے ۶۲۹ھ میں وقت پائی۔

آپ کی کرلٹ مشہور ہیں۔ جب آپ نے ملکن آکر قیام فرمایا تو اس مقام کے قریب ہی جہاں اب حضرت بہاء الدین زکریا کا مزار ہے ایک کنواں تھا جو حضرت شاہ یوسف گرویز کے نانا سے جاری تھا لیکن اب مدتوں سے بند پڑا تھا۔ ایک دن آپ کا وہاں سے گذر ہوا تو آپ نے جو نہی اس کی طرف توجہ فرمائی اس میں سے پانی نکلتا شروع ہو گیا۔ اس پر ملکن کے باشندوں میں حیرت و استعجاب کی لہر دوڑ گئی۔ اس کو ملکن کے آخری مسلمان حکمران مظفر خان نے پختہ کرایا تھا۔ اب اس کو چھت ڈال کر بند کر دیا گیا ہے (۱۷) جامع الکرلٹ میں حضرت مخدوم کا کنوئیں کو جاری کرنے کے بجائے بند کر دینا غالباً کتب کا سو ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ کی بہت سی کرلٹ کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی تفصیل جامع الکرلٹ میں دیکھی جاسکتی ہے۔

حضرت مخدوم عبدالرشید حقلی سے نسبت کی وجہ سے آپ کے پیروؤں اور معتقدین کے سلسلے کو مخدومہ حقلیہ اور حضرت جنید بغدادی سے نسبت ارلوت کی وجہ سے سلسلہ جنیدیہ بھی کہتے ہیں۔

حضرت مخدوم عبدالرشید حقلی کا مزار مبارک ملکن سے بارہ میل دور آپ کے نام نامی سے منسوب اور آپ ہی کے آبلو کردہ قصبہ مخدوم رشید میں زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ آپ کے بھائی حضرت عبدالرحمن، حضرت شیخ سلوہن، مخدوم موسیٰ نواب، حضرت داول دریا اور حضرت مخدوم طاہر عرف بگا شیر اور آپ کی لولاد میں سے مخدوم ابوبکر، مخدوم محمد، مخدوم حسن اور مخدوم صدر الدین اور پوتے حضرت مخدوم سلطان ایوب قتل پڑے پائے کے صاحب کلمات بزرگ ہوئے ہیں۔ حضرت ایوب قتل کی وقت ۶۶۱ھ میں ہوئی۔ (۱۸)

نہد و دروغ اور کشف و کرلٹ میں حضرت مخدوم عبدالرشید حقلی کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ وعظ و ارشاد اور تعلیم قرآن و حدیث میں لاطینی تھے۔ بقول مولف جامع الکرلٹ اس سلسلے میں اطراف و ممالک میں آپ کا شہوت تھا۔ (۱۹) آپ کی عظمت اور بزرگی کا اعتراف کرتے ہوئے حضرت بہاء الدین زکریا نے متعدد مواقع پر اپنے مریدین و حوثلین کو حل مشکلات کے سلسلے میں مخدوم صاحب کی طرف رجوع کرنے کے لئے

کلمہ ”عمر تعلق کی مصیبت کو دور کرنا یا قوم عٹہ کے دو افراد کی مشکل رفع کرنا۔ حضرت بہاء الدین زکریا کو آپ سے عنایت محبت تھی اور آپ حضرت مخدوم کی خدمت میں نہایت اوب و احترام سے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ جامع الکرامات میں مخدوم عبدالرشید حقلی کا ذکر مبارک ان الفاظ میں آیا ہے۔

”آن سلطان الملت مصطفوی و آن برهان المخلعت دین نبوی و آن زبده سلک نبوت و آن نقولہ دود من فتوت و آن متمکن عنوان ہدایت و آن متوکل نشان ولایت و آن پیشوای یقین و آن مقتدای راہ دین و آن گرہ کشای پروہ وحدت و آن رحنمای طریق معرفت و آن آفتاب آسمن کرم و آن بحر مواج علم و علم و آن لہ حیا و صفا و آن معدن جود و وفا (سخا) و آن شمس اخلاق معرفت و آن قمر اوراق کرمت و آن برگزیدہ صاحب فتوت و الجود و آن زبده اولیای معبود و آن بدر عارفان ہدایت و آن کمال بارگاہ عنایت و آن خلیفہ الہی و آن داعی نامتنامی و آن سلطان شریعت و آن برهان طریقت و آن صلوق و روع و آن عالم شرع و آن قدوة الواصلین و آن عمدة الکاملین و آن مرشد الطالین و آن شیخ المشائخین بدگی حضرت مخدوم عبدالرشید حقلی القریشی الاسبدی الکبیر المنیر قدس اللہ سرۃ العزیز اوام اللہ فتوحہ“ (۲۰)

حضرت مخدوم قرآن حدیث اور فقہ کے ماہر تھے اٹھاسی سال کی عمر تک ان علوم کی تدریس کا سلسلہ جاری رکھا اور مشننگن کی پیاس بجھاتے رہے۔

یہ جن کر تعجب ہوتا ہے کہ آپ کی طرف کماحقہ، اعتنا نہیں کیا گیا۔ اہل قلم نے اسی خانوادے کی دو سری شلخ جس کے سربراہ حضرت بہاء الدین زکریا ہیں کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے لیکن حضرت مخدوم حقلی کا ذکر بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اگرچہ دو علی مرتبت بزرگوں کا موازنہ و مقابلہ نامناسب ہے لیکن بت کی تک پہنچنے کے لئے مجبوراً ایسا کیا جا رہا ہے۔ ہمارے خیال میں حضرت مخدوم عبدالرشید حقلی کی طرف ان وجوہات سے زیادہ توجہ مبذول نہیں ہوئی۔

۱۔ آپ کے مرشد نے نصیحت کی تھی کہ ترک و تجرید اختیار کرنا، دنیا سے دل نہ لگانا، وغیرہ۔ چنانچہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جنگل میں گوشہ گیر ہو گئے۔ نہ آپ نے

128560

مرید بنائے نہ جانشین اور خلفاء مقرر کئے۔ آپ پر اکثر حالت سکر طاری رہتی تھی۔ جامع الکرامات کے الفاظ میں آپ ”در استغراق تحیر و تجلیات فتلی اللہ محو و مستغرق بود و یح خبر از عالم جسمانی نمی داشت مگر وقتی کہ بزرگن ہم مشرب در خدمت ایشان تشریف می آوردند آن وقت بحسب ضرورت از حجب وحدانیت صمدی سر بیرون کشیدہ در قیل و قل اندک پیش اشتغال ورزیدند والا نہ۔ تا سالها حاجت خوردن و آشامیدن و پوشیدن نمی داشتند“ (۲۱) کبھی کبھار حالت صحو میں آتے تھے۔ لہذا خلق خدا سے روابط کم ہوئے۔

۲۔ آبلو اجداد کی طرف سے ترکے میں وسیع اراضی اور بے حد و حساب دولت آئی تھی۔ شیخ بہاء الدین زکریا کے بہت زیادہ اصرار پر آپ نے زمین نقدی اور اجناس میں سے اپنا حصہ وصول تو کر لیا لیکن سب درویشوں اور مسکینوں میں بانٹ دیا۔ بعد میں مزل قوم کے دو افراد ابو الفتح اور تلج الدین سے تھوڑی سی زمین خرید کر وہاں محدود پیمانے پر کھیتی باڑی شروع کی تاکہ رزق حلال کی سبیل ہو سکے۔ آپ کی اولاد کا ذریعہ معاش بھی معمولی زراعت اور نذر نیاز رہا (A-۲۱) چنانچہ فقر و فاقہ کی سی حالت رہی اور اس خاندان کو وہ اثر و رسوخ حاصل نہ ہوا جو حضرت بہاء الدین زکریا اور ان کے خاندان کو تھا۔ شیخ بہاء الدین نے زمین اور مل و دولت میں سے اپنا حصہ لے کر اسے تعلیم و تبلیغ اور اشاعت اسلام کے لئے استعمال کیا۔ چنانچہ تاریخوں اور تذکروں میں مذکور ہے کہ آپ اپنے مریدوں کو سلان تجارت دے کر دنیا کے دور دراز ملکوں کی طرف بھیجا کرتے تھے تاکہ وہ اپنی روزی خود کما کر اور یوں فکر معاش سے آزاد ہو کر تبلیغ کا فریضہ ادا کریں۔ آپ کے تجارتی جہاز جلوا سٹرا تک اور تجارتی قلعے وسطی روس تک جایا کرتے تھے (۲۲) شیخ بہاء الدین اور آپ کی اولاد (صاحبزادے شیخ صدر الدین عارف اور پوتے شاہ رکن عالم) نے اس مل و دولت سے خلق خدا کو بہت فائدہ پہنچایا۔ کہتے ہیں کہ ملکن میں ایک بار سخت قحط پڑا۔ والئی ملکن کو غلے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ حضرت بہاء الدین زکریا نے غلے کی ایک بڑی مقدار اپنے ہاں سے اس کے پاس بھیجی۔ جب غلہ اس کے پاس پہنچا تو اس کے انبار میں سے نقرئی ٹھکے کے سات کوزے بھی نکلے۔ والئی ملکن نے شیخ کو اس کی اطلاع دی تو انہوں نے فرمایا کہ

ہم کو پہلے سے معلوم تھا لیکن غلے کے ساتھ اسے بھی ہم نے بھٹلا (۲۳) آپ نے ملتان میں فہراء کے لئے دارالاقامہ، طلباء کے لئے مدرسہ اور بیماروں کے لئے شفاخانہ بھی قائم کیا۔ آپ کے تعلقات خاص و عام سے تھے اور آپ نے بہت سے سیاسی امور اور واقعات میں بھی حصہ لیا۔ مثلاً "جب نوین صالح منگل نے ۱۳۵۷ء میں ملتان پر حملہ کیا تو حضرت بہاء الدین زکریاؒ نے ایک لاکھ دینار ادا کر کے ملتان کو تباہ ہونے سے بچایا (۲۴) ۱۳۳۳ء میں ابن بطوطہ ملتان پہنچا تو حاکم ملتان قطب الدین نے حکم دیا کہ وہ شیخ رکن الدین قریشیؒ کے متوسلین کے پاس ٹھہرے کیونکہ شیخ گورنر کی اجازت کے بغیر اجنبیوں کو نہیں ٹھہرا سکتے تھے۔ (۲۵) اس طرح کے تعلقات اور حالات و واقعات نے حضرت بہاء الدین زکریاؒ اور ان کے خاندان کے اثر و رسوخ میں مزید اضافہ کیا۔ اس کے برعکس حضرت مخدوم ترک و تجرید اور استغما کی وجہ سے گوشہ گمنامی میں رہے۔

۳۔ حضرت مخدوم عبدالرشیدؒ کے خلفاء اور مریدین میں اس پایے کے عالم نہ نکلے جیسے حضرت بہاء الدین زکریاؒ کے ہاں ہوئے۔ موخر الذکر بزرگ کے فرزند شیخ صدر الدین عارفؒ (۲۶) اور پوتے حضرت رکن الدین عالمؒ (۲۷) مرید حضرت جلال الدین بخاریؒ اور ان کی اولاد بالخصوص پوتے حضرت جلال الدین جمانیاں جامگشتؒ (۲۸) فخر الدین عراقیؒ شیخ حسن افغانؒ (۲۹) امیر حسینیؒ (۳۰) لعل شہباز قلندرؒ نے سلسلہ سہروردیہ کو چار چاند لگائے۔ ان میں سے اکثر نے کتب اور تذکرے لکھ کر اپنے بزرگوں کے ناموں اور انکے کارناموں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا۔

مذکورہ بالا وجوہات سے سلسلہ مخدومیہ کو وہ فروغ حاصل نہ ہوا اور نہ وہ شہرت ملی جو اس کے عظیم بانی کے فہر و ولایت، زہد و ورع اور روحانی مرتبے کو دیکھتے ہوئے ملنی چاہئے تھی۔ مدتوں اس خاندان کے کسی فرد یا متوسل کو یہ توفیق نہ ہوئی کہ وہ اپنے جد امجد اور مرشد کے حالات لکھتے۔ کئی صدیوں بعد مخدوم عبدالرشید حقانیؒ کے حالات زندگی اور ملفوظات شیخ شرف الدین قریشی لاہوری نے جمع کئے جس کا دعویٰ ہے کہ وہ مخدوم خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔

۳، ۲، ۱ ان بزرگان کرام کے حالات کتاب کے آخر میں مطبوعات میں ملاحظہ فرمائیں۔

فراہم کردہ معلومات پر اکتفا کرنے پر مجبور ہیں۔ بہر حال اس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ مؤلف کوئی معروف و مشہور شخصیت نہیں تھے اس خاندان سے تعلق رکھنے والے ایک عام سے شخص تھے جنہوں نے بزرگوں کی محبت و عقیدت سے سرشار ہو کر یہ کتاب لکھی تاکہ آنے والی نسلوں کے لئے یادگار رہے۔

جامع الکرامات سے ان کے شوق مطالعہ کا پتہ چلتا ہے۔ انہوں نے متعدد ملفوظات پڑھنے کے بعد اپنے موضوع کے متعلق اتنا مواد جمع کیا جو ان کی قابلیت اور اہل علم و فضل ہونے کی دلیل ہے۔

جامع الکرامات کا سن تصنیف

یہ محقق نہیں ہو سکا کہ جامع الکرامات کس سن میں تالیف ہوئی۔ باوی النظر میں کتاب کے صفحہ ۲ الف پر ایک جملے سے یہ شہرہ ہوتا ہے کہ اس کا سال تصنیف ۸۲۱ھ ہے۔ اس شے کو اس بات سے تقویت ملتی ہے کہ مؤلف نے یہ کتاب حضرت مخدوم ایوب قتل اور ان کے چچا مخدوم صدر الدین اور ان ہر دو حضرات کے پوتوں کے ناموں پر ختم کی ہے۔ جامع الکرامات کے مطابق مخدوم ایوب قتل کی وفات ۷۷۱ھ میں ہوئی۔ دادا سے پوتوں کے دور حیات تک کم و بیش ایک سو سال ہوتے ہیں جس سے سن ۸۲۱ھ برآمد ہوتا ہے اس سے یہ خیال سرائٹا ہے کہ شاید مؤلف نے پوتوں یا زیادہ سے زیادہ پڑپوتوں کا زمانہ پایا ہے اور اس وقت تک کی تاریخ لکھ دی ہے۔ لیکن یہ تمام تصوراتی عمارت اس وقت یکھت زمین بوس ہو جاتی ہے جب ہمیں یاد آتا ہے کہ مؤلف خود اپنے آپ کو اس خاندان کے اخلاف ہی سے بیان کرتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ بہت بعد کے آنے والوں میں سے ہو گا۔ اگر وہ قریبی خلف مثلاً پوتا یا پڑپوتا ہوتا تو ضرور اسے تحریر کرونا (اور اس پر فخر کا اظہار بھی کرتا) معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف نے حضرت ایوب قتل کے پوتوں کے اخلاف کے اسماء قصداً چھوڑ دیئے ہیں یا پھر وہ ان کا احاطہ ہی نہیں کر سکا اور وہ خود قریب کی اولاد نہیں۔

اس سے یہ ثابت ہوا کہ ۸۲۱ھ جامع الکرامات کا سن تصنیف نہیں بلکہ یہ ملفوظ مخدوم ایوب قتل کا ہے کیونکہ یہ اس نام کے ساتھ ہی مذکور ہے۔ مؤلف نے کتاب کے متابع و ماخذ کے نام لکھے ہوئے چوتھے ماخذ کا ذکر یوں کیا ہے۔

”قسم چہارم : از ملفوظ غوث الملک عمدة الواصلین بزرگی حضرت مخدوم سلطان ایوب قتل قریشی“ و تصنیف این درسہ ثمان مائتہ و ستین دستہ ستہ من ہجرت النبی آخر النہان“

کتاب کی زبان اور اسلوب سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب بارہویں صدی

ہجری کے شروع یعنی ۱۱۳۵ھ کے لگ بھگ لکھی گئی۔ آئیے اس سوال پر ایک اور پہلو سے غور کریں۔ مؤلف نے اپنے آپ کو محلہ بڈھن ماچینی اندرون موچی دروازہ لاہور کا رہنے والا بتایا ہے۔ اس وقت موچی دروازے کے اندر اس نام کا کوئی محلہ نہیں۔ علاقے کے بڑے بوڑھوں نے راقم کو بتایا کہ انہوں نے اپنے دادا پردادا سے بھی یہ نام نہیں سنا۔ یعنی اس نام کا محلہ مدتوں سے نابود ہو چکا ہے۔ خیال رہے کہ محلوں کے نام اتنی جلدی نہیں بدلا کرتے۔ اب وہاں کوچے ہیں اور ان کے نام بھی ایسے ہیں جو مثل دور بالخصوص اواخر دور مغلیہ میں ہوتے تھے جیسے ذاتوں کے نام کے منسوب یا پیشہ دروں کے نام سے۔ اواخر دور مغلیہ اورنگ زیب کی وفات (۱۷۰۷ء) سے شروع ہوتا ہے۔ اس حساب سے مؤلف اب سے ڈھائی تین سو سال قبل رہا ہو گا۔ یوں یہ کتاب بارہویں صدی ہجری کے شروع میں لکھی گئی ہو گی۔

بہر حال جامع الکرامات کا صحیح سال تصنیف تشنہ تحقیق ہے۔ شاید آئندہ نئے شواہد ملنے کی صورت میں اس سوال کا جواب دینا ممکن ہو جائے۔

کتاب کی معنوی و ادبی اہمیت

جامع الکرامات حضرت بہاء الدین زکریا ملتانیؒ، اٹکے عمراو حضرت عبدالرشید حقانیؒ اور ان ہر دو حضرات کے اسلاف اجداد کے احوال پر مشتمل ایک بنیادی کتاب ہے خاص طور پر یہ مخدوم حقانیؒ کی زندگی اور ان کے اخلاف کے حالات کا احاطہ کرتی ہے۔ اس کی اہمیت اس سے ظاہر ہے کہ اس عظیم الشان خاندان کے بارے میں تمام لکھے والوں نے اس سے استفادہ کیا ہے۔ مولانا نور احمد فریدی کا تذکرہ بہاء الدین زکریاؒ اور تذکرہ حضرت صدر الدین عارفؒ (۳۳) اس ضمن میں خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ نذر محمد میرانی نے اولیائے ملتان میں (۳۴) ڈاکٹر روبینہ ترین نے اپنے مضمون شیخ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانیؒ کی علمی ادبی و شعری خدمات (۳۵) میں اس کتاب سے فائدہ اٹھایا ہے۔ مخدوم عبدالرشید حقانیؒ کے بھائی حضرت موسیٰ نواب (۳۶) کا مختصر تذکرہ لکھے ہوئے پروفیسر سعید احمد سعید نے بھی جامع الکرامات کی بعض عبارتوں کا ترجمہ کر دیا ہے (۳۷) (اگرچہ انہوں نے اس کا اعتراف نہیں کیا)۔ اس کے علاوہ بھی یقیناً ایسی کتب اور رسائل و مضامین ایسے ہونگے جن میں جامع الکرامات کی طرف رجوع کیا ہو گا۔ بہر حال سلسلہ سمورویہ اور خاندان مخدومیہ کے آباء و اجداد کے بارے میں کوئی تذکرہ اس کتاب کا ذکر کئے بغیر مکمل نہیں کہلا سکتا۔

جامع الکرامات کی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کے لکھنے میں مؤلف نے جن ملفوظات سے استفادہ کیا ہے وہ اب نایاب ہیں۔ مثلاً "ملفوظات شمس الدین" ملفوظات حضرت ایوب قتلؒ کا کہیں سراغ نہیں ملتا۔ غنیمت ہے کہ مؤلف نے ان کتابوں کے اقتباسات کو محفوظ کر دیا ہے۔

زیر نظر کتاب اس لحاظ سے بے حد قابل قدر ہے کہ مخدوم عبدالرشید حقانیؒ اور ان کی اولاد کے حالات اس کتاب کے علاوہ اور کہیں نہیں ملتے۔ بعد میں جن لوگوں نے بھی اس موضوع پر لکھا انہوں نے اسی سے اخذ کیا ہے۔

اگرچہ جامع الکرامات کی بعض روایات محل نظر ہیں مثلاً "یہ کہ حضرت بہاء الدین

زکریا کی شادی حضرت شیخ عبدالقادرؒ کے بیٹے عیسیٰ کی صاحبزادی فاطمہ سے ہوئی تاریخی لحاظ سے غلط ہے۔ تاریخ فرشتہ، خزینۃ الاصفیاء، مرآة الاسرار اور سیر العارفین کے مطابق آپ کی شادی کوٹ کروڑ کے مولانا حسام الدین کی دختر بی بی فاطمہ سے ہوئی۔ (۶) اسی طرح ایک دو اور بیان بھی متنازعہ ہیں۔ لیکن اس کی وجہ سے پوری کتاب کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ بعض خرق عادت واقعات کا بیان بھی کھٹکتا ہے۔ عقیدت کی بنا پر بزرگوں سے ایسی کرامات منسوب کر دی گئی ہیں جنہیں قبول کرنے میں تامل ہوتا ہے۔ لیکن یہ قدیم زمانے میں عام دستور تھا اور کافی حد تک آج بھی ہے۔ کچھ رطب ویابس بھی ہے۔

بہر حال جامع الکرامات کی طرف مثبت یا منفی اعتنا ضرور کیا گیا ہے۔ جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کتاب میں جان ہے۔ جس کتاب کے خلاف بیان بازی ہوئی ہو، جس کی روایات کو جھٹلانے کی کوشش کی گئی ہو، موافق آراء بھی دی گئی ہوں اور مخالف بھی، اسکا شائع ہونا ضروری ہے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ آخر اس کتاب میں ہے کیا جو اس کی طرف اتنی توجہ دی گئی ہے۔ کتاب کا متنازعہ ہونا اس کی طباعت کو لازم ٹھہراتا ہے۔

کتاب سادہ اور رواں عبارت میں لکھی گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مؤلف نے مختلف ماخذوں سے اقتباسات منتخب کر کے ان کے مفاہیم و مطالب کو اپنے لفظوں میں بیان کیا ہے۔ دو تین مقامات پر مقفی و مسجع عالمانہ نثر بھی ملتی ہے۔ لیکن ان میں سے صرف ایک آدھ ہی اس کے اپنے الفاظ پر مشتمل نظر آتی ہے۔ مقامی الفاظ خصوصاً "سرایکی کے لفظ جیسے لٹ کپ وغیرہ استعمال ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جامع الکرامات میں جس خاندان کے حالات بیان ہوئے ہیں اس کا تعلق ملتان اور اس کے گرد و نواح سے ہے۔ یہ بھی عین ممکن ہے کہ خود مؤلف یا اس کے والدین سرایکی علاقے کے رہنے والے ہوں اور موچی دروازہ لاہور کے محلہ بڑھن ماچینی میں آئے ہوں۔

حواشی

- (۱) نذر محمد سیرانی نے صرف ایک سو انتالیس بزرگوں کا ذکر کیا ہے۔ ملاحظہ ہو ان کی کتاب اولیائے ملتان، شائع کردہ کتب خانہ حاجی نیاز احمد اندرون بوہڑ گیٹ ملتان، ۱۹۸۲
- (۲) جامع الکرامات قلمی ص ۳۹ ب
- (۳) جامع الکرامات قلمی ص ۲۱ ب
- (۴) جامع الکرامات قلمی ص ۲۶ ب۔
- (۲) ابی محمد عبداللہ بن مسلم بن عبید (متولد ۲۱۳ھ، متوفی ۲۷۳ھ) 'معارف' بحوالہ رسالہ "انوار غوثیہ خان بہادر مخدوم حسن بخش صاحب قریشی کی دو بخش غلطیوں کا اظہار اول افتادہ" مولف نامعلوم ص ۷
- فرشتہ نے تذکرۃ الاولیائے ہند مؤلفہ شیخ عین الدین بیجا پوری کے حوالے سے ان کا نام مہیار لکھا ہے۔ ملاحظہ ہو تذکرہ مشائخ کرام (فرشتہ) اردو ترجمہ ص ۱۳۰
- (۳) نور احمد فریدی، تذکرہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی، علماء اکیڈمی لاہور، ۱۹۸۰ء، ص ۳۱، ۳۶
- (۵) جامع الکرامات قلمی ص ۲ ب۔
- (۶) محمد قاسم فرشتہ، تذکرہ مشائخ کرام (اردو) احسن برادرز المنار مارکیٹ لاہور، ۱۹۶۵ء ص ۱۳۰
- (۷) مرآة الاسرار قلمی، عبدالرحمن چشتی ص ۲۳۳ الف
- (۸) سیر العارفین، مولانا جمالی، اردو ترجمہ محمد ایوب قادری، مرکزی اردو بورڈ لاہور، ص ۱۳۳

(۹) تذکرہ مشائخ کرام اردو ترجمہ تاریخ فرشتہ (باب مشائخ ہنہ) احسن برادری
لاہور ص ۳۰

(۱۰) روزنامہ نوائے وقت ملتان، ۳ جولائی ۱۹۹۱ء

(۱۱) مرآة الاسرار قلمی عبدالرحمن چشتی ص ۲۰۶ ب اور، یزیم صوفیہ صباح الدین
عبدالرحمن کے مطابق ۵۵۶۵ھ، نور احمد فریدی نے تذکرہ بہاء الدین زکریا ملتانی میں
۵۵۶۱ھ لکھا ہے جبکہ خزینۃ الاصفیاء اور حدیثتہ الاولیاء مفتی غلام سرور لاہوری کے
مطابق ۵۵۷۸ھ ہے۔

(۱۲) جامع الکرامات قلمی ص ۲۰ الف پر لکھا ہے کہ بہاء الدین زکریا کے والد
حضرت محمد غوث کی وفات کے وقت حضرت بہاء الدین زکریا بارہ سال کے اور
عبدالرشید نو سال کے تھے

(۱۳) جامع الکرامات قلمی ص ۲۱ ب

(۱۴) جامع الکرامات قلمی ص ۳۵ ب

(۱۵) خلاصۃ المناقب از نور الدین جعفر بدخشی مرتبہ دکتور سیدہ اشرف ظفر، پیش
گفتار۔

(۱۶) نذر محمد سیرانی، اولیائے ملتان، ص ۹۳

(۱۷) ڈاکٹر سید زاہد علی واسطی، حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی، نوائے وقت ملتان،
۳ جولائی ۱۹۹۱ء

(۱۸) جامع الکرامات قلمی ص ۳۹ ب

(۱۹) ایضاً ص ۲۱ ب

(۲۰) ایضاً ص ۲۶ ب

(۲۱) ایضاً ص ۲ ب

(۲۱-ا) اولاد علی گیلانی، مرقع ملتان، ۱۳۳۸ھ صفحہ ۵۷۷

(۲۲) تذکرہ حضرت بہاء الدین زکریا ملتانی، محولہ بلا۔ ص ۱۳

(۲۳) صلیح الدین عبدالرحمن، بزم صوفیہ، نقیص اکیڈمی کراچی ۱۹۸۷ء ص ۳۰

(۲۴) گزشتہ ضلع ملتان ۱۹۰۷ء ص ۳۰۔

(۲۵) ایضاً

(۲۶) شیخ صدر الدین عارفؒ حضرت بہاء الدین زکریاؒ کے فرزند ارجمند، کلام اللہ پڑھتے تو اس پر غور و فکر فرماتے۔ ان پر بہت معافی و مطالب ظاہر ہوتے۔ اس لئے عارف کہلائے۔ (میر العارفین مولانا جمال بحوالہ تاریخ فرشتہ ۲: ۴۰۸) پیدائش ۱۳۱۱ھ، وقت مرآة الاسرار عبدالرحمن چشتی اردو ترجمہ ص ۸۷ کے مطابق ۶۸۳ھ جو غلط ہے۔ فرشتہ تذکرہ مشلح کرام ۵۷۷۶ھ یہ بھی درست نہیں۔ نور احمد فریدی بحوالہ جامع السلاسل ۵۷۰۹ھ

(۲۷) حضرت شاہ رکن عالمؒ شیخ صدر الدین عارفؒ کے فرزند بلند مرتبہ، پیدائش ۶۳۹ھ، لیکن مرآة الاسرار بحوالہ لطائف اشرفی ۶۳۷ھ، والدہ محترمہ بی بی راستی۔ وقت ۷۳۵ھ (مرآة الاسرار اردو ص ۸۲) مزار ملتان میں مرجع خلایق ہے۔

(۲۸) مخدوم جہانیاں جہانگشتؒ سید جلال الدین سرخ بخاریؒ کے پوتے، سید احمد کبیرؒ کے فرزند، اچ کے نامور روحانی خاندان سے تعلق، جلال الدین بخاریؒ نام، مخدوم جہانیاں لقب، اطراف جہاں میں پھرنے کی وجہ سے جہانگشت کہلائے۔ پیدائش ۷۰۷ھ، شریعت اور طریقت ہر دو میں بلند مرتبہ پایا۔ شاہ رکن عالمؒ اور دوسرے بہت سے مشلح و علما سے کسب فیض کیا۔ سلطان محمد تغلق کے عہد میں شیخ الاسلام مقرر ہوئے۔ وقت ۷۸۵ھ، مزار اچ میں ہے۔

تصانیف: لغزات خلاصۃ الالفاظ جامع العلوم، سراج الہدایہ، خزائن الفوائد جلالیہ۔ جواہر جلالی ۲۔ ترجمہ فارسی رسالہ کیے ۳۔ مکتوبات ۳۔ مسافر نامہ (پاکستان میں قاری

ادب ڈاکٹر ظہور الدین احمد، لاہور جلد اول ص ۳۳۵)

(۲۹) شیخ حسن افغان حضرت بہاء الدین زکریا کے چہیتے مرید، بروایت حضرت نظام الدین اولیاء حضرت شیخ الاسلام فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن مجھ سے پوچھا گیا کہ تم دنیا سے کیا تحفہ لائے ہو تو میں عرض کروں گا کہ خواجہ حسن کا صدق اور اعتقاد صحیح لے کر آیا ہوں۔ ان پڑھ تھے لیکن علم لدنی سے فیض یاب، کشف و کرامات کے مالک۔

(۳۰) امیر حسینی پیدائش غور (افغانستان کا گاؤں کزیو) ہرات میں سکونت کے باعث ہروی کہلائے۔ بہ سلسلہ تجارت ملتان آئے اور حضرت بہاء الدین زکریا کے مرید ہوئے۔ بقول جامی وفات ۶۳۱۸ھ / ۱۲۱۸ھ جو درست نہیں۔ زاد المسافرین کے اختتام ۶۳۲۸ھ / ۱۲۲۹ھ تک زندہ تھے۔

تصانیف: ۱۔ نزعت الارواح ۲۔ الارواح ۳۔ صراط مستقیم ۴۔ طرب المجالس ۵۔ زاد المسافرین ۶۔ کنز الرموز مشنوی ۷۔ سوالات گلشن راز ۸۔ دیوان نمبر ۱، ۵ اور ۶ پر شیخ بہاء الدین زکریا نے اصلاح فرمائی۔ (تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند، جلد سوم فارسی ادب (اول) پنجاب یونیورسٹی لاہور ۱۹۷۱ء ص ۱۰۷)

(۳۱) جامع الکرامات قلمی ص ۱ الف

(۳۲) ایضاً ص ۳۵ ب

(۳۳) بالترتیب شائع کردہ قصر الادب نور محل براستہ شجاع آباد ملتان ۱۹۵۳ء و قصر الادب جگودالا براہ لودھراں ۱۹۵۸ء

(۳۴) نذر محمد سیرانی، اولیائے ملتان، کتب خانہ حاجی نیاز احمد اندرون بوہڑ گیٹ ملتان

(۳۵) مجلہ "سمورد" شمارہ ۸، جنوری ۱۹۸۹ء سموردیہ فاؤنڈیشن ۱۵ میکوڈ روڈ لاہور

(۳۶) آپ کا مزار سرواہی تحصیل صادق آباد ضلع رحیم یار خان میں ہے۔

(۳۷) قصر الادب سرواہی ضلع رحیم یار خان، ۱۹۸۱ء۔

متن فارسی

بسم الله الرحمن الرحيم

(ص ۱۱) ملفوظ حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی قدس سرہ، از تعنیف شیخ شرف الدین قریشی

ایات

ایکے در ملک جان تو داری دست خالق کل شی بلا (و) پست
کل مخلوق پیت بی تبدیل مظهر بر صفات شد بی قفل
در میان دوست را عیان کردی سرور کائنات را نشان کردی
زیب لولاک یافت در کونین بر امت شفیع در حشرین

من بعد بر علماء فیض ماثر، فضیلتی دین و علمای ائمن و سائر کافہ انام پنهان و مخفی
نماند کہ تقریر (فقیر) پر تفسیر ضعیف و نحیف شرف الدین از اولاد غفران پناه رضوان
دستگاه حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی قدس سرہ ساکن اندرون حصار دارالسلطنت
لاہور متصل موچی دروازہ محلہ شیخ بدھن ماچینی یک روز (در) کتب خانہ فضیلت و (ص ۱۱)
ب) کمالات پناه شیخ عبدالغفور مرحوم (و) مغفور بہ خدمت شیخ وجیہ الدین مدرس
ساکن محلہ ایشان بہت مقابلہ گرفتہ (رفتہ) بودم و شیخ مسطور در علم فضیلت و شریعت و
نص و حدیث بی نظیر و لا مثالی بود، چند نمونہ ملفوظات اہل سلف بموجب مفصلہ الدلائل
کہ در آن ذکر کشف (و) کرامات و احوال خدمات حضرت مخدوم عبدالرشید درج بود
در مطالعہ در آمد۔ فقیر خواست کہ احوال بزرگان جد خود از خروج العرب و دخول الدیار
خوارزم (۱) و غزنوی (غزنی) و جمع ملتان از ملفوظات ذیل چیدہ و کجا سازوتا مستیمان
اولاد انجای را یادگار بماند۔

قسم اول : از ملفوظ شیخ الاسلام والدین، مرشد الطالبین با علم الیقین شیخ
شمس الدین (۲) مشتمل بر دو ذکر، قسم ذکر اول در خروج العرب و دخول شہر
خوارزم، قسم ذکر دوم در کوائف فتح دیار ہند و ولایت راجہ دیپال (۳) و
خشل و تنبورہما

قسم دوم : احوال مشائخنا منقول از ملفوظ قطب الاقطاب موحد لائمانی شیخ فرید الدین گنج شکر قدس سره (۴)

قسم سوم : از ملفوظ سید الابرار (ص ۱۲) ربانی اسرار حضرت سید جلال الدین بخاری (۵) احوال خصال و کرامات و صحبتات و اجلاس و حیات و عمر شیخنا حضرت عبدالرشید بدرج آورده که شیخنا صاحب وجد و فناء فی اللہ و تارک دنیا عن تحت الشری فی الی العرش استوی کما حقہ، میداشت و از قیل (و) قال نفسانی و علامات زندگانی دنیا مستغنی بود مگر بہ اہل طریق بزرگان چنانچہ حضرت شیخ المشائخین شیخ الاسلام و الدین حضرت شیخ بھاء الدین (۶) و غیرہ بزرگان در عالم صحوۃ می آمد۔

قسم چهارم : از ملفوظ غوث الملک عمدة الواصلین بندگی حضرت مخدوم سلطان ایوب قتال قریشی و تصنیف این درسہ ثمان مائتہ و شصتین ستہ من حجۃ التبی آخر الزمان احوال تمامی بزرگان اہل سلف از ابتدای حضرت آدم صغی اللہ تا انتہای زمانہ حضرت پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یکجا ساخته و کوائف جد الشریفین مشائخنا در ارقام آورده، "جامع الکرامات ملفوظ المستی" نام نمادہ کہ خوانندگان از اولاد و مریدان با اعتقاد از احوال و کوائف شیخنا مطلع گردیدہ یادگار دارند۔ چون حضرت مخدوم از ابتدای حال رشد لغایت وصال دار البقا در استغراق تخی (ص ۲ ب) و تجلیات فتانی اللہ محو مستغرق بود و ہیچ خبر از عالم جسمانی نمیداشت مگر وقتی کہ بزرگان ہم شرب (مشرب) در خدمت ایشان تشریف می آوردند آن وقت بحسب ضرورت از حجاب وحدانیت صدی سر بیرون کشیدہ در قیل (و) قال اندک (و) بیش اشتعال ورزیدند واللہ۔ تا سالها حاجت خوردن و آشامیدن و پوشیدن نمی داشتند و خادمان امورات ملتوی خود را عمون وقت استظہار کرده می گرفتند۔

قسم اول : از ملفوظ شیخ المشائخین مرشد الطالین بندگی حضرت شیخ شمس الدین چشین نوشہ اندک۔

آغاز کتاب

امیر تاج الدین رئیس دیار عرب بود، در بیت اللہ مبارک سکونت می داشت، چون نوبت خلافت مکه معظمه به ملک حمار مروانی رسید (۷) و تمامی باشندگان و نواحی عرب (را) طریق خارجیہ در پیش ساختند (۸) و اوشان به امیر تاج الدین تکلیف کردند که بیعت ما بکنند ایشان قبول نکردند به مروانیان مخالفت قلبی شد۔ ازین سبب وطن مالوفہ خود گذاشته مع لشکر در خوارزم رسیدند۔ چند مدت در آنجا گذران کردند و تنها در قلعه خوارزم آمد (و) رفت می داشتند و با طغون بیگ قلعه دار خوارزم اخلاص در میان آمد۔ کسی غرض گوی قلعه دار مذکور را (ص ۱۳) بدگمانی در میان آورد که امیر تاج الدین برای گرفتن قلعه مستعد است۔ قلعه دار به امیر تاج الدین بدگمان شده از آمدن و رفتن ایشان جواب داد، ازین سبب برہم گشته قلعه را گرد کردند۔ یک سال منازعہ و جنگ در میان ماند۔ بعد متغنی سال قلعه را فتح کردند و قلعه دار را محبوس ساخته خود در قلعه مکان های سکونت مرتب ساختند۔

نقل است از ملفوظ شیخ برهان الملت والدین (۹) که امیر تاج الدین مدت ده سال در قلعه خوارزم کامرانی فرموده بجوار حق پیوست۔ شیخ عبداللہ حسین پسر بزرگوار که در علوم ظاہر و باطن ممتاز و مرتاز (مرتاض) بود بر کرسی بیست و دو سال۔ دویم پسر خود شیخ شمس الدین که در علوم لدنی بر کمال لائسانی بود از علم نص و حدیث عالم را مستفیض گردانیدند و از علم باطن سی صد کس را مرید کردند چنانچه ذکر ایشان درین ملفوظ علیحدہ درج است مشروحا" در ختمیت معلوم و مفہوم خواهد شد۔ بعدہ، شیخ المشائخ از دارالفناء به دارالبقارحلت فرمودند و مزار و بقعہ منور اوشان در نواحی خوارزم است۔

نقل است کہ من بعد شیخ حسین فرزند ارجمند بہ خرقہ سجادگی ممتاز گشت۔ احوال آن بزرگوار بچید و بیعد مستغنی بود از اسباب دنیا نقد (ص ۳ ب) و جنس از بہائم و فلوس این قدر زر کہ در معرض شمار نمی آمد و خدمت شیخ شمس الدین کہ عم مبارک شیخ حسین بود اولیای کامل و در چہارہ علم قابض و حامل، شیخ موصوف خواست کہ بخدمت عم فیاض الاعم ارادت مریدی و حصول باطن از روی بیعت در یابد۔ لان شیخنا

رجوع کرد و ضمن خدمت بوسید و الحان و الحاح بسیار بجای آورد۔ شیخ فرمود کہ دو مدی در یک جا اجلاس نمی نمایند و دو شمشیر در یک نیام راست نمی شوند۔ فرمود کہ ای فرزند اگر مال و منال دنیاوی تمام و کمال حسبہ لله در تصرف درویشان نمایی و تجرید و بیوایی اختیار کنی آنچه نصیب است بتو سپارم، شیخ از نصائح عم قارق الغم بیچ ابا نکر دند۔ فی الفور تمامی خزاین از نقود و فلوس و بهایم و اساس (اثاث) الیت کلی و جزوی بہ نام اللہ تعالیٰ بہ درویشان و مسکینان و مستحقان صرف کرد و نفیر عام داد و خود متنفس یک کلاه و نیمہ و ازار باقی داشت و خود را در سلک مریدان و خدام شیخ المشائخ پداشت۔ چند گان در خوارزم متوطن ماندند، بعدہ، بہ حسب آبخورد و الحاح و التجای سلطان محمود غزنوی بہ طرف غزنوی (غزنی) مراجع گشت۔ در شہر غزنی بہ طرف مسجد جامع یک حجرہ مسکن مالوفہ نمودند۔ لیل (ص ۱۳) و نمار در یاد حق تبارک و تعالیٰ مشغول بودند گذران متوکل می نمودند۔ مدت سہ سال بہ سلطان محمود التفات نکردند۔ بعد سہ سال سلطان محمود کہ در آنجا والی غزنی بود ارادہ مریدی وجب اعتقاد در خاطرش من اللہ منعقد گشت بخد مت مشائخین ارادہ بندگی و طناب سہا گمندی در گردن انداختہ رجوع گشت و قدم بوسی نمود۔ شیخ المشائخین و قدوة الساکین شیخ شمس الدین سلطان محمود غزنوی را از علم نص و قرآن و حدیث تعلیم فرمودند چنانچہ شاہزادہ در علم شریعت و نص و حدیث یکی علامتہ الدھر گردید و بعدہ، بہ علم لدنی ارشاد فرمودند، در اندک مدت مستیز اللبقات سموی و بکشت الاسرار ارضی گشت بہ خدمت شیخنا عرض نمود کہ بہ مشاہدہ جمال پر کمال حضرت محبوب ذوالجلال و حضرت علیہ الصلوٰات (مستفیض) گردد بہ توجہ باطنی و تیسیر المعانی بہ مشاہدہ جمال بی علل مستفیض فرمودند۔

نقل است کہ سلطان محمود ہر شب در خدمت علیہ الصلوٰات والسلام حاضر می بود و شیخ المشائخ در باب آن از حضور فتوحات و لمعات ارزانی می فرمودند، یک شب بندگی حضرت شیخ المسلمین سلطان محمود در حضور پر نور حضرت خاتم النبیین (خاتم التسنن) حاضر بودند کہ فرمان شد کہ ولایت ہند (ص ۳ ب) تمامی کفار است، سلطان محمود مراجع بہ طرف دیار ہند شود، آن ملک را در سلک اسلام آورد۔ سلطان محمود مجرود حکم قبول کرد خلعت نورانی از حضرت ذوالجلال والا کرام عطا گردید، سرفراز شد و ممتاز گشت۔ علی

الصباح بر تخت نشست، حاضری لشکر گرفت و نغیر عام اسلام در تمام ولایت اظہار و انتشار کرد کہ ہر کہ مسلمان کلمہ طیب گو باشد بداند کہ ذات پاک علیہ الصلوٰۃ والسلام خواہد است برای معاونت ولایت ہند پا در رکاب شود۔ ہر کس از طائفہ مسلمین و موئین مستعد و مقید گردیدند۔ چون صورت نغیر عام اسلام بہ سمح عالی شیخ المشائخین والدین رسید حضرت ایشان بمعہ خدام تیار و مستعد شدند۔ چون لشکر فیروزی اثر بقاصلہ یک منزل خیمہ با زو سلطان محمود بجمت رخصت بخدمت شیخنا حاضر گشت، دید کہ اسباب مسافرت مهم ولایت ہند خدام بستہ مستعداند کہ بطرف منزل گاہ عساکر روانہ شوند۔ سلطان محمود بہ عجز و نیاز والمحال تمام عرض نمود کہ مقدمہ مهم ولایت ہند بسیار دشوار، کمینہ از خدام کہ مراجع آن طرف است خادمان حضور قدم رنجہ نہ فرمایند، مخدومنا فرمودند کہ نغیر عام اسلام است بر ہر یک تنفس مسلمین بشرط استماع فرض، ترک فرض کردن خلی مشکل (ص ۱۵) ہر چند سلطان محمود عرض کرد شیخ المشائخ قبول نہ فرمودند، عاقبت الامر عرض کرد کہ بہ برکت قدم رنجہ پیر و مرشد و استاد، بہ امداد حضرت خاتم النبیین ولایت ہند فتح و فیروزی گشت بسبب قدم آنحضرت نیاز خادمان نمودم کہ ارزانی آید والایاد فرمایند۔

نقل است کہ چون نغیر عام اسلام در تمام دیار غزنوی بحکم ظل سبحانی جاہجا انتشار پیوست تمامی خلق اللہ من المسلمین (ازہر) مکان و ہر جہت بمعہ (مع) سلاح حتی المقدور در یک جا جمع شدند، بہ شہر غزنوی (غزنی) مراجعت نمودند، بعد انقضای ہفتہ سلطان السلاطین شاہ غزنوی بمعہ عساکر فتح لشکر اسلام حکم فرمودہ تیسان بارگاہ، حاجبان درگاہ در تمامی انبیہ عساکر متادی کرد کہ ہر یک زبہ و عمدہ امارب (امارت) بمعہ (مع) افواج مجموعہ سواری گردیدہ بہ نظر عالی قرار گرفت۔ راقمان بارگاہ تعداد فرمودند، ہمگی و ہمگی یک لکھ و ہفتاد ہزار سر کردہ ہادر شمار آمدند چنانچہ تمامی لشکر اسلام در ہفت فرسنگ کوچ (و) مقام می نمود۔ چون سلطان محمود از منزل گاہ کابل و زابل (۱۰) سوار گردیدہ بہ سمت دیار ہند مراغب و مراحل گشت از انجا تا حد راجہ تنبورہ و راجہ دیپال مفاصلہ یک صد پنجاہ فرسنگ بود۔ روز بروز قطع منازل (ص ۵ ب) می فرمودند۔ چون تمامی لشکر انبویہ اسلام در کوہستان بہبودی (۱۱) رسید بر تالاب مشبر وار عبور فرمودند، لہذا از شب گذشتہ

بود که آتش از آسمان بمثل باران باریدن گرفت، در تمام لشکر فریاد و الحاح برخاست۔ حضرت شیخ المشائخ بمعہ (مع) خیمہ سلطان محمود یک پہلو خیمہ برپا میگردند۔ چون حالت واردات معاینہ نمودند برخاستہ بہ دعا و شای حضرت واحد لایزال و ختم الانبیاء مشغول شدند۔ آن معاینہ مہیب کہ آنرا (آن از) اقوام مارچ (۱۳) بود فرو نشست و منقطع شد۔ القصہ از آنجا کوچیدہ در حد معدن الجد (۱۳) برکوبہ جدی (۱۴) لشکر اسلام ورود نمود، آن دیار فرخندہ آثار را تابع حکم اسلام کردہ بیان امان بستند۔ بعد ازان مراجع ہند گشتہ در برا کلبار (۱۵) وارد گردیدند، در آنجا ہیچ آبی نبود تا ہفت شبانروز آب بدست نیامدہ ہر کس عاجز گشت۔ آخر الامر سلطان محمود غزنوی در خدمت شیخنا عرض نمود و ایشان دست دعا بہ مناجات قاضی الحاجات بر آوردند۔ بحکم کار ساز باران چنان باریدن گرفت کہ تمام لشکر اہل اسلام سیراب شدند۔

نقل است کہ بعد انقضای مدت یک سال عساکر فیض ماثر متصل خطہ کوت کروڑ (۱۶) (ص ۱۶) کہ بتعلق (متعلق) (۱۷) حد راجہ دہپال بود رسیدند۔ بیرون قلعہ عبور فرمودند۔ دہپال نام قلعہ از طرف راجہ دہپال بمعہ (مع) فوج در قلعہ محکم بود بہ جنگ مستعد شد۔ دو روز تاب آورده بعدہ، فراری گشت، طرف راجہ دہپال ہرکارہ ہا خبر گریز قلعہ دار رسانیدند۔ لشکر اسلام سوار شدہ در قلعہ داخل و منادی اسلام کنانیدند و حضرت مخدوم، سخنانہ ہارا تاراج و خراب ساختہ بنای مساجد برپا کردند۔ عبداللہ بن سعید کہ از خدام قدیم و معتبران مستقیم بود اورا بخدمت قلعہ داری کردہ بنواختند و خود متوجہ سمت ولایت راجہ دہپال روانہ گردیدند و موسم سیلاب بود۔ صلاح افتاد کہ بغیر از کشتی ہارفتن مشکل، سلطان محمود غزنوی حکم کرد بہ شاہ شہاب الدین غوری (۱۸) کہ خواہر زادہ حقیقی بود کارخانہ کشتی ہا معرفت خود انجام دہد۔ ایشان بموجب فرمان لازم الاذعان تیار کردند۔ سلطان محمود غزنوی بہ شیخ الملت والدین فرمود کہ آنحضرت در تمام قبائل در ہنجا مستحکم باشند و مابین طرف راجہ تنبورہ کہ پدر راجہ دہپال است روانہ شویم۔ القصہ شیخ حسین بمعہ دہ ہزار سوار در کوٹ کروڑ برای ضبط ملک و قبائل قائم مقام (ص ۶ ب) گشتند و دیگر لشکر اسلام بمعہ سلطان محمود در ساعت سعید در کشتی ہا سوار شدہ سمت راجہ تنبورہ مراجع شدند۔ بعد از ہشتم روز در سواد تلبہ (۱۹) کہ تودہ

کلان (۲۰) از غرقاب فارس بود در آنجا عبور نموده دو روز آرام و قرار گرفتند بعد آن بر کشتی با سوار شده روانه گشتند بعد ده روز بر توده ابو سعید ماچینی که ویرانه مطلق بود عبور فرمودند پیش از قلعه مذکور راه خشکی بود در آنجا منزل نمودند و قرار گرفتند و از آن جا هرکاره با بجمت دریافت استعداد راجه تنبوره روانه کردند القصه معلوم شد که راجه تنبوره در آن ایام به قضای الہی از دار دنیا فی النار و السقر رحلت نمود و قائم مقام راجه دہپال مقرر شد۔ چون خبر آمدن لشکر بہ سمح راجه دہپال رسید گفت بہ خیال فاسد درین جای آئید از جا بجا لشکر بید و بید میا ساخت و عازم استقبال لشکر اسلام گردید۔ ہرپال قلعه دار کوٹ کروڑ عرض نمود کہ لشکر ترکان قدر قلیل است و بر ایشان سوار شدن لائق قدر راجہ نیست، صلاح آن است کہ ہرکارہ ہا باید فرستاد کہ رفتہ ماہیت ایشان دریافتہ بہ خدمت بندگان آمدہ مفصل بیان نماید، بعد آن کمینہ از بندگان راجہ تعین فرماید کہ آن مشت غریبان را بہ سم اسپان مبارزان پامپال و خراب خواہد ساخت، بحسب صلاح قلعه دار ہرکارہ ہا تعین کردند۔ ہرکارہ ہا در لشکر اسلام داخل شدند (ص ۷۱) و معائنہ نمودند و در دل شاد شدند کہ لشکر ترکان از لشکر راجہ قدر قلیل است لیکن شیوہ ایشان دریافت باید کرد۔ چون وقت نماز ظہور آمد ہر کس از مسلمانان گروہ گروہ در با گنماز و نماز مشغول شدند۔ بعضی در اقتدای امام صف در صف استادہ بودند و وقت قیام در قیام، رکوع در رکوع و وقت سجود در سجود، وقت قعدہ در قعدہ متابعت امام میکردند۔ بعضی مسلمانان یک جا جماعت ہا در وقت گفتن اذان متوجہ اذان بودند و بعضی در ساختن وضو و بعضی در دادن سواک مشغول بودند، ہرکارہ ہا احوال مسلمانان دیدہ بسیار حیران و ہراسان شدند و با یکدیگر گفتند کہ لشکر قدری قلیل است لیکن اتفاق زیادہ میدارند کہ پس یک مرد ہزار متابعت مینمایند و بر آواز یک کس ہزاران مردمان گوش دارند و متوجہ شدہ آوازی شنوند۔ از متواضعان پرسیدند کہ شما چہ میکنید؟ ایشان گفتند کہ فردا دیار راجہ دہپال را تاخت و تاراج خواہیم کرد و از روز ہاگرسنہ شدہ ایم مردمان آن ولایت را خواہیم خورد، چون این سخن شنیدند ہراسان گشتہ باز گفتند تمامی کیفیت مشروحا عرض کردند کہ لشکر ترکان از لشکر راجہ قدری قلیل است لیکن آن رسم و شیوہ کہ در لشکر ترکان است در لشکر راجہ نیست۔ کجا اتفاق کہ

در ترکان است اینجا نیست و دیگر (ص ۷ ب) احتیاج خوردن طعام نمی دارند، مستعد برای خوردن گوشت آدمیان این دیار اند و دندان تیزی نمایند۔ از استماع این کیفیت راجه دیپال خلوت نمود و صلاح شمرد۔ همین صلاح استوار کردند که مقابل خونخواران و درندگان شدن خوب نیست، اینجا گذاشت باید کرد۔

ذکر دوم (دوم) - از موقوف شیخ شمس الدین نقل است که آن کافر بی دین مشورت کرد که بمع (مع) تمامی رعایا آن روی دریا (۲۱) عبور نموده در قلعه جیسل باید نشست و از آنجا بر کشتی باسوار شده شب خون به لشکر ترکان خواهم کرد۔ هر کس را این صلاح پسندیده افتاد۔ در آن اثنا راجه دیپال بمع (مع) اسباب و اشیاء و تمامی لشکر و رعایا از قلعه دیپال گمر (گڑھ) (۲۲) و از خورده سمت جیسل گمر مراجع گشت۔ هر کاره های اسلام این مژده به سمع عالی سلطان محمود غزنوی رسانیدند، لشکر اسلام فی الفور تاخت نموده در قلعه راجه دیپال مداخلت نمود و منادی اسلام بنواختند، تخته و دهرم ساہمای (دھرم شالہ ہای) (۲۳) کفر شکستند و مساجد ها (?) بنا کردند۔ یک سال در آنجا سکونت پذیرفته بندوبست حکمرانی فرمودند و شاه شہاب الدین غوری خواہر زاده خود را بمع لشکر بسیار تعاقب آن کافر نمون بخت تعین فرموده کہ برکنارہ دریا این روی آب عبور نموده بمع (مع) لشکر کفار مقابلہ نماید۔ شہاب الدین غوری بحکم عالی تعاقب نموده برکنارہ دریا (ص ۱۸) عبور فرموده تمامی لشکر راستہ جا استقامت داد، یک حصہ در چپا و یک حصہ در راستا و یک در کمین گاہ، وقتی کہ بر لشکر اسلام تاخت کنند آن دو حصہ کہ راستا و چپا اند آنها را محاصرہ نمایند۔ چون آمدن لشکر اسلام بر راجه دیپال و راجه جیسل متواضع گشت کہ برکنارہ دریا عبور نموده صد کشتی بمع لشکر پر کرده وقت شب برای شبنون لشکر اسلام روانہ کردند، این روی دریا عبور نموده شمشیر با علم کرده در لشکر قاتلند و جنگ عظیم واقع شد چنانچہ بس کس از کافران در جنم و از مومنان در بہشت رسیدند و آن دو حصہ لشکر محاصرہ کردند و کشتی های کفار دیگر را اسیر کردند و سلطان شہاب الدین رو برد آن اسیران کفار حکم کرد کہ ہر روز صد کس را ذبح میکردند (بکتند) و حوالہ مطبخان نمایند کہ زود کباب کرده بیارند و چند کسان حوالہ امرا ہای (امراء) نمودند و بعضی را بہ بہانہ خلاص ساختند و آن اسیران کہ خلاص شدہ بودند کیفیت کشتن و خوردن

یک بیک پیش ہر دو راجہ ظاہر ساختند۔ ہر دو راجہ را ہراس و ترس جان در خاطر جای گرفتند۔ از طرف دیپال گہر (گڑھ) سلطان محمود غزنوی و شیخ المشائخ بندوبست آنجا محکم (ص ۸ ب) ساختہ بطرف لشکر سلطان شہاب الدین غوری عازم شدند۔ چون لشکر پادشاہ کوچ فرمود چند نفر کافران مجوس را خلاص ساختہ روان کردند۔ اوشان نیز پیش ہر دو راجہ رفتہ ظاہر ساختند کہ فی الواقعہ (فی الواقع) این مرومان خونخوار است (اند) و بدون گوشت آدمی دیار ہند نمی خورند و لشکر ہیشینہ را مرومان ہند برای خوردن روز مرہ یک دو ہزار آن محل کہ دو لشکر جمع شدہ کہ معہ (مع) ترک کلان آمدہ معلوم است کہ سہ چہار ہزار مردم دیار ہند در کار خواہد شد۔ اغلب است کہ امروز یا فردا بر کشتی ہا سوار شدہ از دریا عبور نمودہ درین نواحی تاخت خواہد آورد و وقت ہمین است ہرچہ صلاح پسندیدہ دانند بکنند۔ از استماع این خبر مہیب قرار و آرام از خاطر کافران بدبخت رفت بمعہ (مع) سرکردہ ہای خود مشورت نمودند۔ ہر کس صلاح داد کہ بدون گذاشتن این دیار علاج دیگر نیست و وقت ہمین است۔ ہر کس رادر دیار خود متلوی کردند کہ این ملک را بگذارند و بہ طرف ملک جیسلمیر (۲۳) مراجع شوند و ہر کہ در ہنجا خواہد نشست ذمہ (لقمہ) ترکان خواہد شد۔ ہر کس و ہر دو راجہ سمت جیسلمیر روانہ گشتند۔ ہر کارہ ہا این خبر بہ سمع لشکر اسلام رسانیدند (ص ۱۹) طبل شادی زدند و طرف آن روی آب عبور نمودند و در قلعہ جیسلمیر (گڑھ) مداخلت نمودند و در قلعہ (و) دہرم سالہ ہا (شالہ حا) و ہتخانہ و رسم ہای کفر ہمہ برہم نگشتند و مبارزان اسلام تقویت ہای بسیار بدست آوردند و مساجد بنا ساختند و حکمرانی کردند۔ یک سال کامل در قلعہ جیسلمیر (گڑھ) سکونت درزیدند۔ چون ضبط و قبضہ در دیار مذکور بہ ظہور پیوست سلطان محمود غزنوی پیش شیخ شمس الدین دست بستہ استادہ شدہ قدمبوسی بجا آوردہ و عرض کرد کہ بہ برکت قدم رنجہ آن مرشد الطالین و بہ فضل ایزد تعالی و بہ امداد رسول اللہ فتح ہند بنام خدام گردید۔ این ملک بہ خدام حضور مبارک باد، از حکمرانی این ملک عمر طلاق است۔ بندہ را مرض فرمایند کہ بہ طرف لاہور مراجع شود۔ مخدوم صاحب مرض فرمود کہ ترا بخدا سپردہ و بیست ہزار سوار تعین خدام حضور فرمود و خود روانہ لاہور شد۔

نقل است کہ چون سلطان محمود بصبوب لاہور روانہ گشت و خادمان در جیسل گمر (گڑھ) قابض گردند (گردیدند) نگاہداشت لشکر در پیش کرد و تاخت ملک دار حرب کہ نواحی جیسلمیر و بیکانیر (۲۵) و جود پور (۲۶) (جودھ پور) و جینگر (جے نگر) (۲۷) و ناگور (۲۸) لشکر اسلام بہر طرف تاخت (ص ۹ ب) و باخت ساختند و غنیمت بسیار بدست آوردند و ضابطہ اسلام چنان ہویدا شد کہ ارسال تحائف و بہ طاعت از ہر سہ ملک دار حرب بہ نظر خدام ظہور یافت۔ مدت وہ سال این فقیر در جیسل گمر (گڑھ) حکمرانی ملک دار حرب را گوشمالی می کرد۔ بعد آن مسعود ابن عرب کہ مخصوص عمدۃ الخدام بود در قلعہ جیسل گمر (گڑھ) نیابت و خلافت بدو تفویض فرمودہ بطرف خطہ کوٹ کروڑ مراجعت فرمودند۔ بمعہ (مع) شیخ حسن و شیخ حسین آمدہ ملاقی فرمودند و شکرانہ حضرت صمیمت بجا آوردہ در کوٹ کروڑ قرار و آرام نمودند۔ نقل است کہ آمدن مشائخنا متبرکان در عمدہ اربعہ ماہت خمسین و خمبہ سنہ من الهجرة النبوی علیہ الصلوٰۃ والسلام، هو اولاد (A - ۲۸) شیخ عیاذ بن شیخ عبدالرحیم بن مطرفہ بن خزیمت بن خازم بن عیاذ و هو لمسلم بن یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فی المغازی الواخری (فی المغازی الواقدی) و هو ابن الاسد بن مطلب بن ہاشم بن عبد المناف جد النبی صلی اللہ علیہ وسلم و عیاذ بن اسد بن عبدالعزی بن قصی بن کلاب ابن مرۃ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمت بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار (نزار) بن معد بن (ص ۱۲) عدنان بن بشر بن معین بن اد بن آذر بن حمیح بن سلمان ابن ثابت بن حمل بن مسلح بن حکیم بن قینار بن اسعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناخور بن شارخ بن مارخ بن ارغو بن قارح بن عامر بن صلح بن ہود بن ارفخشذ بن سام بن نوح بن مالک بن متوشلح بن اختوخ بن بیارو بن صلاکیل بن قینان بن انوش بن شیش بن ابو بشر آدم علیہ (علیہم) السلام اجمعین و آدم من الماء والطين والنار والهوا اربع عناصر و مرۃ بن کعب بن کلاب بن علی بن غلیل الرحمن ثلث و عشرين . "طنا" و منہ الی نوح علیہ السلام ثمانیۃ و منہ الی آدم علیہ السلام عشرۃ و الخمسین ستون . "طنا" اما منہ جانب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد المناف بن قصی ابن کلاب بن مرۃ بن کعب بن کلاب بن علی بن غلیل الرحمن علیہ

السلام و عثمان اقرب ثم ابوبکر ثم عمر و علی ابن العم ابی صلی الله علیه و سلم و هو القریشیون اولاد نضر بن کنانہ قریشی و بن (من) النعی و نضر سبطه آباء و من نضر بن کنانہ قریشی و هذا النسب من الله و هو اول من سی بالقرش ذکر فی المغرب و انما سوا به نضر قریشی و هو دابة عظيمة فی البحر صحبت بالنفس و الاطلاق بالنار (ص ۱۰ ب) و عن معاوية انه سال ابن عباس رضی الله عنه سمیت قرشی من... و مشا نحننا القریشیون المناسیون۔

نقل است کہ شیخ شمس الدین کہ از ملک دہپال و جیسل گمر (گڑھ) فتح و فیروزی حاصل کرد، سکہ سلطنت ظاہر و باہر گردانید و افواج و عساکر جاہجاناتا نمان تعین فرمود۔ از ہر طرف خزاین بی شمار آمدنی (آمدن) گرفت و ملک تمامی دیار ہند آباد و معمور گشت کہ کسی محتاج یکدیگر نمی شد۔ نوعی خاطر جمع و جمعیت کلی شد کہ در مکان مالوفہ خود آباد بودند۔ روزی مسعود ابن عرب بخدمت شیخنا نامہ نوشت کہ دہپال راجہ بجکم لم یزلی فی النار و الترفوت و راجہ جیسل پسر ملعون عازم است کہ از دریا با عابر گردیدہ از طرف ٹٹہ (ٹٹہ) (۲۹) بمعہ (مع) لشکر بر عدہ کوٹ کور تاخت نمایند۔ قبلہ عالم و عالمیان از دفعہ (دفاع) غافل نباید بود، بروقت تدارک فرمایند کہ معاندان وقت یافتہ منحصر مطلب نشود (نشوند) خدام قدسی مہام از مضمون عریضہ اش مطلع گردید۔ مقدار چہل ہزار سوار و پیادہ بمعہ (مع) شیخ حسین تعین فرمود کہ در قلعہ چروڑ (۳۰) مقید شوند کہ وقتی آن کافر ملعون در آن وادی عازم شود تمامی لشکر مقابل کردہ ہر کارہ باین طرف روانہ سازند کہ برای معاونت بمعہ (مع) بارگاہ نزد آن برخوردار (ص ۱۱) رسیدہ خواهد شد۔ شیخ حسین بمعہ تمامی عساکر روانہ گشت، در قلعہ چروڑ سکونت پذیرفت۔ یک سال در قلعہ مذکور قرار گرفت۔ بہ تقدیر الله من بعد در کوٹ کروڑ شیخ المشائخین از دار الفنا بہ دار البقار حلت فرمود انا لله و انا الیہ راجعون۔

نقل است از ملفوظ سید جلال الدین بخاری، شیخ حسین از اطلاع واقعہ صعب مع چند کسان سوار گشت کہ در فاتحہ خوانی شیخ مرحوم مغفور اشتعال پذیرد۔ در انشای راہ بود کہ آن کافر مقهور عازم این طرف شد۔ بہ شنیدن خبر از راہ باز گردیدند و خط طرف صاحبزادہ قوی طالع سلطان جلال الدین فرزند خود کہ در آن وقت نہ سالہ عمر داشت روانہ کردند کہ از سبب خروج لشکر مخالف کہ از جیسل میر سر کشیدہ از راہ باز گردیدہ شدہ

ایم، باید که بعد از فاتح خوانی انتظار نخواستند کرد و برکری سجادگی باید نشست. موجب نوشته پدر خود عمل کرده مستحکم شدند. القصد لشکر بسیار آن کافر ملعون در حد سنده رسید، ایشان نیز سوار شده مقابل شدند، جنگ عظیم واقع شد تا هفت روز، در ہفتم روز از هر دو طرف مبارزان تا ا-تقدر سسی تیر و تفنگ و شمشیر و گرز و کند در میان آور دند که آفتاب از گرد ایشان پوشیده گشت تا سه پاس، عاقبت الامر (ص ۱۱۰ ب) لشکر کفار غلبه کرد. مبارزان اسلام تمامی بمعہ (مع) شیخ حسین مراتب شہادت یافتند. یک کسی از ان جمگی باقی نماند و از طرف کفار ہفتاد ہزار کس فی النار و السعور در شمار آمدند. چون شیخ در میدان شہدای افتادہ بود راجہ جیسل حکم کرد کہ این شیخ حسین سر کردہ لشکر ترکان است این را بموجب رسم مسلمانان بہ منزل رسانند. طالب العلم از قلعہ چترور طلب نمودند. مولوی محی الدین کہ از فضلای چترور رئیس بود فی الفور برخاست و شیخ مرحوم را از میدان جنگ برداشتہ در مقام شرق رویہ قلعہ چترور تجویز نمودہ مدفون ساختند. بعد کافر بدکار دوازده روز در آنجا مقام کرد و لشکر دیگر از لاکھا راجہ علیہ طرف کوٹ کروڑ عازم شد. منزل و مراحل طی کردہ در نواحی کوٹ کروڑ رسید و وکیل سمت شیخ جلال الدین روانہ کرد کہ اگر خیر و خوبی خود شیخوای طناب فرما نبرداری در گردن خود انداختہ بہ بارگاہ مہاراجہ حاضر شوی بہتر والا از کردہ پدر خود چنان خواهی یافت کہ از یک نفس قوم شما درین ملک زندہ نخواہم گذاشت. سلطان جلال الدین بمعہ (مع) ارباب صلاح در شہر آمدند، ہر کس صلاح داد کہ این کافر تشنہ خون خدام قدسی مقام است و (ص ۱۲) خادمان را طاقت مقابلہ و انتقام آن نیست، بہتر این است کہ قلعہ معمور ساختہ جنگ نما-نیم ہرچہ رضای خدای تعالی باشد خواہد شد. دروازہ حای کوٹ معمور ساختہ بہ توپ و ریکہ و تفنگ و غیرہ پیراستہ نمودند وکیل را جواب صاف دادہ مستحکم شدند. چون وکیل مذکور جواب صاف ایشان شنید کافر از غصہ نرسید و سوار گشت و حکم نمود کہ نواحی این ملک را تاراج و خراب سازند. لشکر کفار ہر جا کہ توانستہ تاخت عالم را آتش دادند و تاراج و ویران کردند و ہر کس کہ از مسلمانان یافتہ بہ شہادت رسانیدند، قلعہ کوٹ محاصرہ نمودند، شب و روز مجاہدہ کردند تا حتی کہ یک سال متعفی گردید و جمعیت گاہ وغلہ اندرون قلعہ بچ نماند، مردمان تنگ آمدند، مردمان مبارزان و غیرہ جمع شدہ بہ

خدمت شاهزادہ عرض کردند کہ لاچار شدہ از گرفتاری بملیم و آدمیان می میرند چه صلاح می بینند؟ فرمودند کہ این مسعود کہ دایہ شاهزادہ بود آن را بہ وکالت باید فرستاد۔ این مسعود پیش آن بدبخت رسید و عرض وزاری کرد، 'بچ قبول نکرد۔ جواب داد کہ باز روی' پسر شمس الدین بیرون کشیدہ بہ من تفویض کنید و شمن تمامی رعایا بہ جمعیت در قلعہ نشستہ باشد سوای این دیگر نخواہیم کرد (ص ۳۳ ب) چون دایہ این مسعود از لشکر باز آمد کیفیت بہ عرض رسانید فریاد فغان از باشندگان برآمد کہ شاهزادہ را بدست کافر خوشخوار فرستادن خیلی مشکل است۔ شاهزادہ چون این سخن شنید فرمود کہ رفتن مانند کافر بہترین صلاح است کہ تمامی خلق اللہ در امان در آید و یک نفس احقر اسیر کفار گردد۔ بہتر است کہ زود اسب را تیار بر سازند درین شمر غریب از تمامی خلق و از اندرون اہل پردہ برخاست۔ شاهزادہ توکل بر خدا کردہ سوار شد و دروازہ خلاص کرد و ہر کس را امتادی کرد ہر جا کہ توانند باشندگان بموند۔ چون در لشکر کفار قدم رنجہ فرمود ہر کس را کہ از لشکر کفار بر شاهزادہ عالی نظر افتاد تمامی کور شدند، چون پیش جیسل بر رسیدند محمود دیدن شاهزادہ آن کافر کور شد، از کرامت آن زبده مشائخ کرام معتقد گشت و عرض نمود کہ ای مخدوم زادہ محالہ کوری میان بکنید، این بندہ رازن طلاق است کہ درین جای ماند یا عمل دخل نماید، راہ ملک خود گرفتہ روان خواہم شد۔ درین اظہار آن قطب الاقطاب آب علیید۔ خدمتگار آفتابہ پر کردہ حاضر نمود، وضو ساختہ آب مستعمل وضو را فرمودند ہر کہ آب وضو بر چشمان خود بمالد بصارت حاصل خواہد ساخت۔ اول (ص ۱۳۳) راجہ جیسل و نزدیکان او آب وضو بر چشمان خویش مالید۔ مخدوم بصارت یافتہ و دیرہ خود بطرف راہ ملک خود بیرون کشیدند۔ ہم برین نعت تمامی لشکر کفار آب وضو بر چشمان می مالید و راہ لشکر میگرفت۔ شاهزادہ بہ فضل ایزد متعال بہ فتح و فیوژی و حصول مطالب داخل قلعہ کردہ گردیدند، مبارکبادی و شادی بہ ظہور پیوست۔ والدہ شریفہ مخدوم زادہ کہ موسوم عصمت خاتون میگفتندی در استغراق اسم اعظم بود در عالم صحو آمد و گفت پیش حضرت علیہ الصلوٰۃ و السلام این معاملہ بود کہ سلطان جلال الدین چہل سال کامرانی دیار ہند خواہد کرد و از نسل او اولاد پیدا خواہد شد۔

ذکر دوم از مخطوط سید جلال الدین۔ نقل است کہ شیخ سلطان جلال الدین در خطہ

کوٹ کور بادشاہی باضابطہ چنان کرو از ملک دار حرب لغایت حد سلطنت غزنوی محکم حکم پذیر بودند و عدل و تفحص شاهزادہ با رعایا باین قسم بود کہ شیر با ماد (مادہ) گاؤ و گرگ با گوسفندان الفت و دوستی داشتی و در علم و علم آبخنان متعلی بود کہ عالمان دهر تعلیم می گرفتند و در کشف و کرامات و علم لدنی چنان مراتب داشت کہ ہر شب (ص ۳۳ ب) پیش حضرت علیہ السلام حاضر بودی۔ مدت چہل سال در کوٹ کور و ولایت ہند کامرانی کرد۔

نقل است یک روز آن مخدوم زادہ بر کرسی نشسته بود کہ یک مرد سفید پوش با چہرہ نورانی و شکل بندگان یزدانی سفید ریش از صفحہ دیوار بیرون آمد و گفت کہ ای فرزند جلال الدین زود باش، فرمان است کہ خود را در بارگہ صمیمت برسان و بجای خود خلف برگزیدہ افعال سلطان علی بر کرسی سلطنت بنشان۔ مخدوم زادہ برخاست، غسل تجہید فرمود و در دوگانہ نماز مشغول گشت و در سجدہ اخیرہ جان بہ دوست سپرد۔ صاحب زادہ بلند اقبال شیخ سلطان علی در آن وقت در عمر دوازده سال می داشت، بر تجہیز و تکفین آن شیخ المشائخ فرمودند و خود را در احسن اوقات و میمون ساعات بر کرسی شاہانہ بنشست و ضرب و سکہ و خطبہ در ملک بنام خود جاری ساخت۔ چون آن شاہزادہ درین عمر تحصیل علم شریعت و نص و حفظ حاصل کردہ بود سوای حکم شرع شریف سخن بر زبان نمی راند و وقت ممتاز شدن بر کرسی شاہی خطاب رسم (اسم) سلطان ابوبکر نمودہ بودند در سکہ ضرب سلطان ابوبکر بود و در خانہ سلطان علی قاضی نیز میگفتند۔ چون مخدوم زادہ دنیا و دین (ص ۱۳۳) قابض و غالب گشت کتاب در احوال بزرگان سلف و ارادت خود تألیف نمود سر از کار الماضین نام نمادہ کہ مخدوم زادہ در کشف القبور و کشف الارض و کشف السماء بردست بسیاری داشت و اشہد۔ صحبت ایشان بہ حضرت خضر علیہ السلام بود۔ یک روز مخدوم زادہ در حجرہ نشسته بود و عرض مسعود ہی عرب رسید بدین مضمون کہ این خاکپای عمر بہ خلیفہ گری مصروف ساختہ و الحال ضعف کمال دارد و این ملک متعل دار حرب لیلا و نہارا، افواج شاہی در ملک دار حرب تاخت و باخت می نمایند و این خطہ در متابعت است۔ الحال این کینہ درگاہ می خواهد کہ خود را در حضور مشرف سازد و سعادت ابدی نماید کہ میعاد زندگانی بسر رسیدہ باشد بجای این خانہ زاد از معتبر بارگاہ

منید فرمایید۔ حضرت مخدوم الملک را پسندیده آمد که مسعود مرد دیرینه و ہم صحبت جد بزرگوار است۔ بہتر آن است کہ باقی ایام عمر پادشاه معصوم سازد۔ ابو الفتح بن عبداللہ کہ شیختہ در کوٹ کور بود طہیدند و بہ خلعت قاخرہ بنواختند بصوب جیسل گہ (گڑھ) تعین فرمودند۔ ابو الفتح روانہ گشت۔ بعد طی منازل روز بیستم در قلعہ جیسل داخل شد و مسعود بن عرب روانہ طرف کوٹ کور شدہ جلد و شتاب کوچ بہ کوچ کردہ بخدمت (ص ۳۳ ب) خدام قدس نشان خود را مشرف ساخت و بہ خلعت ملازمت سرفراز گشت و مصاحب خود ساخت۔ اگرچہ نامحکم بسیار بود (بودند) اما سوای صلاح و شہد آن یک سخن بر زبان مخدوم الملک جای نمی گرفت۔

نقل است از مسعود بن عرب کہ یک روز شاہزادہ از خلوت بہ مراقبہ نشستہ بودند و بندہ پس پشت نشستہ چون از مراقبہ بیرون آمدند متوجہ بہ غلام شدہ فرمودند کہ این مسعود! در لوح محفوظ دیدم کہ معصومہ شیخ محمود اوجینی (۳۲) کہ نسب و نسل او قبیلہ قاریقی است در عقد نکاح نصیب مایان است و از ان دو فرزند متولد شوند یکی شیخ احمد دوم شیخ محمد و هر دو را درجات چندان از قدرت ذوالجلال عطا است کہ حدی و نہایتی ندارد و از اولاد ایشان کرسی بہ کرسی ولادت عارف باللہ و رئیس الاولیاء خواهد شد۔ بموجب حکم لم یزلی تدارک کہ خدائی کنید۔ بندہ برخواست و تسلیمات بجا آورده و در احسن اوقات واسع ساعت مستعد گردیدہ بہ طرف اوجین (۳۳) روانہ گردید۔ بعد چند روز در قصبہ اوجین رسیدہ بہ خدمت شیخ محمود عرض کرد کہ این بندہ کینہ از طرف سلطان ابوبکر کوری درین جا رسیدہ امیدوار است کہ بہ شرف ملازمت (ص ۱۵ ا) مستفید و بہرہ یاب شود۔ شیخ محمود بہ پسر خود استقبال فرمودہ بہ صد اعزاز ہمراہ خود بہ ملازمت مشرف و معزز فرمودند۔ بہ انواع مہمانی کہ تجاوز الحد است بنواختند و سرفراز فرمودند۔ دہم روز این بندہ بہ خدمت خدام بجای خود عرض نمود۔ شیخ موصوف بہ عرصہ اجابت آورد و بہ خلعت قاخرہ این کینہ بارگاہ را بنواختہ و باتحایف بسیار بجمت سلطان العارفين روانہ فرمود۔ بندہ بہ حصول مطالب مراجع شدہ در کوٹ کور رسید و کیفیت یک یک عرض رسانید۔ مبارک بادی شد۔ آنحضرت این کینہ بارگاہ را بہ خلعت های قاخرہ ممتاز و سرفراز فرمودند و در آن ایام بہ انجام شامانہ و انصرام

مشایخانہ ولوازم شریفانہ تیار کئے۔ سمت اوجین مراجع کردند۔ شاہزادہ بلند اقبل چون در نواحی اوجین رسید تمامی شرفاء و علماء و فضلاء ذوی الاحرام بہ استقبال آنحضرت مشرف کئے و عذر خواست در میان آوردند۔ بعدہ شیخ محمود تشریف ارزانی فرمودہ و ہمراہ خود کردہ در حویلی خاص متمکن گردانیدہ پنج روز در شغل سکون شادی اشتغال ورزیدیم۔ بعد آن عقد نکاح منعقد (ص ۵۵) کئے۔ آن شاہزادہ بہ مطلب دلخواہ رسید۔ بعد ہفتم روز دیرہ استرداد و مراجعت بیرون کئے۔ شیخ محمود مدہ (مع) صد انکار و اعزاز امداد حتی المقدور المقصود بمعہ (مع) قبایل مرضی کردہ بہ خیریت و جمعیت و حصول مرام در کوٹ کرور داخل کئے و کوس شادی ہفت روز نواختیم۔

نقل است کہ سلطان ابوبکر در خانہ اسکندر زمیندار نواحی غزنوی (غزنی) کہ خدا شدہ بود، قلا ازان اہل پردہ اولاد بہ ظہور نہ پیوست ولا ولد بہ جوار حق پیوست و این قبیلہ در محل های اوشان سکونت داشتند۔ بعد یک سال پسر تولد شد آن را شیخ احمد نام کردند۔ چون سہ سال دیگر متغنی گشت پسر دیگر متولد گشت۔ آن را شیخ محمد نام نمودند و ابو صالح ہم می گفتندی۔ چون ہزدہ پیران بہ پانزدہ سالگی رسیدند والدہ شریفہ بہ قدرت الہی از ملک فنا بہ دارالبقا رحلت فرمود۔ حضرت شیخنا بعد کہ خدائی ترک فرمودند و شیوہ تجرید در پیش ساختہ در حجرہ بہ عبادت و ریاضت حق اشتغال ورزیدند۔ در عین حیات خود سکہ بہ نام سلطان احمد جاری ساختند و بر کرسی حکمرانی ولایت معتز فرمودہ، شیخ احمد بمعہ (مع) لشکر بی قیاس سواری شد و در ولایت دیپال و جیل وغیرہ ہر جا خود رفتہ خبری گرفت و شرایط حکم و ضبط می فرمود، شیخ محمد در خدمت والد موحد حاضر بود۔

نقل است کہ شیخ احمد بمعہ (مع) (ص ۱۰۸) لشکر بسیار بطرف دیپال گمر (گڑھ) مراجعت فرمودہ بودند و چند ماہ در آن جا ماندند۔ خط سلطان المشائخ ابوبکر بنام شیخ احمد نوشتہ زیر مصلی نمودند۔ ہمو نوقت خط بخد مت رسید بدین مضمون کہ خود را بلا توقف درین جا رسانند کہ اسبجانب عازم بطرف دوست است۔ شیخ احمد مجرہ مطالعہ رقیمہ برخاست و روانہ بطرف کوٹ کرور گشت۔ کوچ کوچ جلدو شتاب در کوٹ کرور رسید، بشرف ملازمت مشرف شد۔ چون حضرت سلطان العارفين تسبیح و مصلی و خرقد و عصای

تبرکت بدست ایشان پرورد خود در جمیع معصوم ساختند و در نوافل اشغال و رزیدند۔ در آخر شب بخوار رحمت پیوستند۔ علی الصبح تجیز و تکفین نموده در پہلوی قبلہ گاہ مدفون فرمودند۔ عمر ایشان ہشتاد سال بود و سلطان شیخ احمد بر کرسی حکم مستقر و محکم شد۔

نقل است کہ شیخ محمد غوث در خدمت ابویصاحب مقید و حاضر بود۔ علم لدنی و علم شریعت تحصیل نموده و باقی حضرت خدوم الاولیاء از زبان مبارک فرمودہ بودند کہ نصیب نصیب نما در محبت مہتر حضرت است از آتما مٹلی خواہد شد۔ قلم ملاقات حضرت مہتر الاولیاء در بیت اللہ بہ نما میر تو ائمہ شد۔ ایشان بحسب ارشاد مہتری میر گشتہ و روانہ بلطف بیت بلی شد (ص ۱) صاحبزادہ بہ اشتیاق کمال و وجد (ص ۱۱ ب) ملا مال در حصار شان (۳۳) رسیدند در خدمت بارگاہ محمد نور اللہ مشرف گشتہ فیضی جدید از ایشان حاصل فرمودند۔ بعد ہفت روز از خدمت ایشان مرخص گردیدند و از آنجا بہ بلخ (۳۴) آمدند و در خدمت شیخ احمد ختروبیہ (۳۵) رجوع گشتہ و روز از فیض آتما مستفیض شدہ مراجع کبیل بیت بلی شد۔ چون در دمشق رسیدند بخدمت شیخ وجہ الدین محمد (وجہ الدین محمد) ملازمت مشرف حاصل کردند۔ ایشان بر احوال صاحبزادہ مطلع گشتہ البجا فرمودند کہ شکورین جا قرار گیرید۔ آنچه مقصود و مطلوب ایشان است درین جا بہ فضل اتی میر خواہد شد۔ شیخ محمد غوث الثقات نگروند و روانہ شدند۔ از آنجا در بغداد کہنہ مراجعت فرمودند۔ در مقیم حضرت امام المسلمین والموئین حضرت امام اعظم (۳۶) زیارت حاصل کردند۔ شبانروز مجلورت نمودند۔ در شب زیارت آن امام المسلمین حاصل شد۔ در کنار گشتہ و ہمراہ خود در مجلس حضرت سرور کائنات سر دفتر تلوقات خلاصہ موجودات (ہند) حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دست شیخ محمد غوث بدست مہتر ختروبیہ السلام توفیق فرمودند۔ عنایات و فیضات و درجات عالیہ در آن شب حاصل گشتہ بہ حضرت مہتر الاولیاء وعدہ دریافت نصیب در بیت اللہ بر مصلی مقرر شدہ حضرت سرور کائنات اسم شیخ محمد غوث شیخ کمال الدین علی شاہ (ص ۱۱) قریشی فرمودند چنانچہ وقت صبح ہر کس شیخ کمال الدین علی درویش میگفتندی و از آنجا بلطف بیت بلی مرخص گشتہ از آنجا در جہہ رسیدند احرام حج مستقیم کردند۔ در شب در ریاضت اشغال میداشتند حضرت ختروبیہ السلام در رسید۔ گفت ۳۵ فرزند کمال

الدین موعود نصیب شان رسیده، بر خیز۔ دست را بگیرند: و در بیت اللہ رسانیدند۔ بر
 مصلائی حنفی (۳۷) دو گانه شکرانه بجا آوردند، آنچه سب ایشان باقی بود تمامی عطا
 فرمودند۔ چنانچه چاروه سال شیخ کمال الدین در بیت ربی استقامت نمود۔ سعادت
 چاروه حج حاصل کرد۔ بعد آن به روضه سرور کائنات ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم
 رسیدند۔ چاروه سال مجاورت نمودند سعادت ابدی و فتوحات لم یزلی در خدمت سید
 الانبیاء حاصل فرمودند۔ حالات آنها بدان درجه رسید که از حال خود هیچ ہوش نمی داشتند
 در مکان علوی مستغرق می بودند۔ در آن اثناء حضرت ختم الانبیاء بہ شیخ کمال الدین حکم
 فرمود (فرمودند) کہ ای فرزند مداومت گذران نما در بقعه ملتان است بروید در آنجا
 سکونت (ص ۷۸ ب) پذیرید۔ شیخ موصوف بہ حصول سعادت ابدی و فتوحات سرمدی
 رخصت حاصل کرد و راه بقعه ملتان اختیار کرد۔ میر شده در نواحی بغداد رسید۔

ذکر دوم از ملفوظ مخدوم العالم (۳۸) نقل است کہ در بغداد شیخ عیسی نبیو
 حضرت قدوة المحققین، رئیس العارفين، عمدة الکاملین، زبدة الساکین، شیخ کبیر، شیخ
 عبدالقادر جیلانی (۳۸ - A) بر مصلائی سجادگی متجلی بود و آن شیخنا بہ سمع سرود اشتیاق
 می داشتند۔ یک روز شیخ کمال الدین در صحرائی نواحی بغداد سیری کردند۔ قوالان حضوری
 مجلس شیخ عیسی (۳۹) با او طاق شدند۔ شیخ فرمود کہ سرود کہ پیش شیخ کرده باشی بیان
 نمایی۔ قوالان بتی چند در سرود بنواختند۔ بہ استماع آن ذوقی و حالتی بہ شیخ پدید شد حتی
 کہ آتش شوق شعله زد و افروخت۔ وجود ظاہری شیخ بملکی بسوخت و خاکستر شد۔ قوال
 حیران و متحیر ماند۔ چون قوال دست در خاکستر کرد گوهر بیش قیمت از خاکستر پیدا شد۔
 قوال برگرفت و در دستار خود محکم نمود۔ چون وقت شب قوال بخدمت شیخ عیسی رسید
 گوهر از دستار در شید۔ (ص ۱۸۸) شیخ فرمود کہ این چه چیز است در دستار تو؟ قوال فی
 الفور گوهر لعانی پیش دست ربانی اظهار نمود۔ شیخ عیسی آن گوهر را بہ اہل پرہ سپرد۔
 اہل پرہ شیخ آن گوهر را در جعد دختر مستوره بہ اسم بی بی فاطمہ منعقد ساختہ وقتی کہ شیخ
 بہ تلاوت قرآن مجید اشتغال فرمودی از اصغای قرآن از گوهر منعقد آب جاری میشد
 چنانچه اندام تمام آن معصومہ تر گشتی۔ اہل خانہ شیخ مذکور این حقیقت بہ سمع شیخ عیسی
 کما منبغی رسانیدند۔ شیخ قوال را علیید۔ تمحص و تجسس بلا غایت فرمودند کہ این گوهر

از کجا حاصل کرده ای که این خاصیت عجیب و غریب به ظهور پیوسته که در هیچ گوهر آن نیست. قوال تمام قصه به شیخ عیسیٰ مفصل اظهار کرد. شیخ برخاست و گوهر از جعبه مستوره کشیده در مصلائی خود نموده خود را تا جی درگاه بلا اشتباه نمود تا به عمل شیخ کمال الدین به صورت اصلی خود اعماء (کذا) فرمودند. هر دو صاحبان بعد از معانقه و مصافحه یکجا معصوم و محفوظ آمدند و مانده تناول فرمودند. بعد از شیخ عیسیٰ فرمود که ای شیخنا گوهر شما به آب تقدیر الهی سلک معصوم منعقد شده الان مانیز به عقد شرعی باشا منعقد (ص ۱۸ ب) نمودیم (نما سلیم). شیخ کمال الدین ایجاب آورده قبول فرمودند. بعد از شش ماه کمال از خدمت شیخ عیسیٰ اجازة طلبیدند. بمع (مع) قبائل از بغداد مرخص گشتند، منزل و مراحل طی کرده در کوٹ کروڑ رسیدند. بعد از سه سال فرزند ارجمند در ناصیه آفتاب معانی و متاب لمعانی از زوج زبیده جیلانی (۳۱) تولد گشت و مطالعه نمود، اسم ایشان بماؤ الحق (۳۰) مقرر فرمودند و بعد از انتضای مدت چهار سال معصوم ماسوم (موسوم) بی بی کمال خاتون تولد شد. هر دو برادران با یکدیگر اتفاق کلی میداشتند لیکن شیخ محمد غوث در علاقات دنیاوی و به اتصال سلطنت هیچ محبت نمی فرمودند، به تجرید در یاد حق اشتغال می داشتند.

نقل است از مکتوبات شیخ حسن دیپال پوری که شیخ احمد صاحب سلطنت و والی مملکت بود. شی در خواب دید که شیخ المشائخین قطب الاقطاب شیخ سلطان علی در حجره نشسته بود. فرمودند که ای فرزند! در خاطره ایجا دنیا اوقات عمر صرف مینمائی بغیر علم همه بجا است و نصیب شما از خدمت شیخ جمال الدین سلیمان (۳۲) از حضرت صحبت مقرر است. در قصبه گو توال (کھوتوال) (۳۳) سکونت دارند برو خدمت ایشان ارزانی دارید (ص ۱۹) هر چه نصیب است بتو خواهد رسید. علی الصباح شیخ احمد از علاقات دنیاوی بیدل و مضطرب شد. شیخ بجای خود شیخ حسن را بر کرسی سلطنت مستقر گردانید و خود بمع (مع) چند کس خادم سمت قصبه گو توال (کھوتوال) روان گشت. بعد به ختم روز در قصبه مذکور رسید و بنخدمت حضرت شیخ جمال الدین قد مبوسی حاصل کرد. شیخ فرمود بمجد ملاقات به فرموده شیخ سلطان علی طلب نصیب میخواهی؟ شیخ احمد عرض کرد که ازان منبع الجود و الکریم پنهان نیست و پوشیده نی فرمودند خاطر جمع دار. حجره مسکن

مرحمت فرمودند و روزہ ارشاد کردند۔ ہمدان دو سال چلہ با و ریاضت کشیدند۔ فیضات ربانی و کرامات رحمانی بہ برکت مرشد شیخ جمال الدین سلیمان کشف گشت و آنچه نصیب ایشان امانت بود تمامی حاصل شد۔ مرتبہ علو و کرامت و حسنات روزی شد۔ حضرت شیخ جمال الدین فرمود کہ بیا سلطنت در نصیب شما باقیست، بروید بر ملک مختصر شوید۔ حضرت شیخ احمد بعد سہ سال بہ درجات علوی رسیدہ در ولایت خود رسیدہ کامرانی کرد۔ چون حضرت (ص ۸۹ ب) شیخ محمد غوث بمعہ (مع) قبائل از بغداد رسید۔ بعد از چند روز شیخ احمد فرمود کہ ای برادر معصومہ دوم شیخ عیسیٰ نصیب ما است کہ در لوح محفوظ این چنین است۔ شیخ محمد غوث اندرون اہل پرہ را ظاہر ساخت۔ اوشان آتما فرمودند و خط بہ خدمت شیخ عیسیٰ روانہ نمودند۔ شیخ جیلانی این معنی قبول کرد۔ ازین جاہر دو برادران و اندرون اہل پرہ مستعد گشت بصوب بغداد مراجعہ گردیدند۔ چون در بغداد رسیدند بمعہ (مع) شیخ احمد غوث لوازم سلطنت ہمراہ بود چنانچہ لشکر و خیمہ ہا وغیرہ اسباب شاهی در خدمت شیخ جیلانی ہویدا گشت، یک دو روز برای عقد نکاح بی بی جنت خاتون در نواحی بغداد سکونت فرمودند۔ بعدہ، کار خیر کردہ بمعہ (مع) قبائل باز گشتند و در کوٹ کروڑ رسیدند۔ سرد برادران و دیگر حویلی قبائل خود نشانیدند۔ از بی بی جنت خاتون چہار پسر متولد شد۔

اول :- حضرت مخدوم عبدالرشید

دوم :- شیخ عبدالرحمن

سوم :- شیخ طاہر

چہارم :- شیخ سادہن

ویک دختر بی بی بہران خاتون تولد گشت (ص ۱۲۰) و شیخ احمد غوث رامہ پسر دیگر از

عورت دیگر بودند:

اول :- شیخ موسیٰ نواب

دوم :- شیخ اولدریا

سوم: شیخ ملا فقیر

شیخ احمد غوث باقی عمر در فقیری گذرانید شیخ احمد غوث بخدمت شیخ محمد غوث ساسی شد کہ ایشان بر سلطنت قابض شوند لیکن شیخ پچ التفات نمیکرد۔ عاقبت برای قسمت خزانہ النجا آوردند۔ ایشان فرمودند کہ یکجا باشد۔ ہر چند بدو جمع نمودند شیخ قبول نکرد۔ مدت پانزدہ سال ہر دو برادران یکجا کامرانی فرمودند۔ بعدہ شیخ محمد غوث بہ رحمت حق پیوست۔ ہم پہلو پدر بزرگوار در کوٹ کور مدفون فرمودند۔ شیخ احمد غوث کامرانی ملک و خلعت سلطنت بہ برادر زادہ شیخ بہاء الدین دادند چنانچہ مردم مشلح و زمیندار و شرفاء از ہر دیار معروفہ خلعت ماتم پرسی بر آورد و چیزی نقد بہ خدمت شیخ احمد غوث آوردند آنم تفویض بہ شیخ بہاء الدین میفرمودند۔ آن وقت در عمر حضرت شیخ بہاء الدین دوازده سالہ بود و در عمر مخدوم عبدالرشید نہ سالہ بودند و دیگران برادران خورد سالہ بودند و حضرت شیخ بہاء الدین حفظ قرآن مجید باہفت قرات در کوٹ کور از مولانا نصیر الدین بلخی حاصل کرد و مسیر گنت بہ سمت خراسان و بغداد (ص ۲۰ ب) و از آنجا بہ بخارا آمد۔ در تحصیل خواندن علم اشتغال کامل نمود چنانچہ بہ اجتمار رسید و از کمال عفتی و صلاحیتی کہ داشتی اہل بخارا ایشان را بہاء الدین فرشتہ گفتند و اورا در خراسان و بخارا شہرتی عظیم بودی۔ از آنجا بجانب بیت اللہ عزیمت نمود۔ بعد از تشریف سعادت حج و زیارت سرور کائنات خلاصہ موجودات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم موازنہ پنج سال مجاورت کرد و پیش شیخ کمال الدین محمد عیسی (۴۳) کہ یکی از محدثان کبار بود بہ تعلیم علم لدنی مشغول می شد و من بعد آن فتوحات و سعادت کہ از کابلان حاصل کردند تا رسیدن مشروحات در یہ العارفین (۴۴) درج است واضح خواهد شد و سلطان شیخ احمد غوث در ولایت حکمرانی دو سال پس از شیخ محمد غوث بہ جوار رحمت حق پیوست بہ پہلوی برادر مدفون فرمودند۔ آن وقت عمر مخدوم عبدالرشید چارہ سالہ بود و والدہ شریف و خالہ عقیقہ عین حیات بودند و عمر شیخ احمد غوث ہشتاد و شش سال بود۔ بر فرش ماتم پرسی شیخ احمد غوث ہشتت۔ تمامی ملک دیار ہند ولایت بلخ و بخارا و غزنی خلعت ارسال نمودند۔ مخدوم زادہ را بر کرسی سلطنت نشاندند۔ مخدوم زادہ را فضل یزدانی شامل حال بود۔ در خورد ساگی چنان عدل و انصاف و ضبط سلطنت نشانند کہ از قبلہ گاہ وہ حصہ زیادہ

تر و ملک ملک حسن اخلاق ایشان مشہور گشت و حصول (ص ۱۲۱) خراج مملکت دو
 سال و سه چندان آمدنی گرفت و رعایا آباد و خوش و خورم (خرم) گذران می نمود و
 تحت مخدوم عبدالرشید را بی بی فاطمه خاله عینی (یعنی) اہل پردہ شیخ محمد غوث مرحوم
 مشہور در عین حیات خود باعاجزہ بی بی کمال خاتون (۳۵) منعقد ساخت۔ بعد از مدتی از
 شہر بی بی کمال خاتون دو پسر متولد شدند۔ یکی شیخ ابوبکر دوم شیخ محمد من بعد مدت سه
 سال ہر دو ہمیشہ بنت عیسیٰ گیلانی بجوار رحمت حق قریب گشتند و در کوٹ کروڑ مدفون
 فرمودند۔

حضرت مخدوم عبدالرشید بہ حکم ایزدی با کمالات و برکات بہ طرف ملتان جنت
 لکان قدم ارزانی داشتند در آنجا کہ الحال روضہ منورہ مقدسہ شیخ الاسلام مخدوم بہاء
 الدین است در آنجا مکان تاریک (تاریک) پیر ایسر (ایش) همانند یو بود سکونت
 فرمودند کہ در آن زمان در ملتان جنت لکان شیخ محمد یوسف المعروف شاگردیز (شاہ
 گردیز) (۳۶) بود بہ ارشاد بسیار و یکی چاہ متصل گریالی (گھریالی) دروازہ (۳۷) زیر تودہ
 کلان (۳۸) مشہور است کہ بغیر زرگاواہی جاری میبود۔ این طور صاحب کشف و
 کرامات و کمالت بسیار داشت۔ یکروز حضرت مخدوم عبدالرشید در آنجا تشریف
 فرمودند۔ چاہ را از جاری شدن موقوف فرمودند تا حال چاہ مذکور از جاری شدن
 موقوف است۔ اکابران ملتان از حسن لطافت این کرامات حیران ماندند، منقاد و مطیع (ص
 ۲۱ ب) کرامات او گشتند۔ خاص و عام در محبت و مودت آن خلاصہ انام عقد محبت
 محکم بستند، مال و جان را فدای ایشان کردند۔ طایفہ جمال و گمراہ و کم ہمت را کہ در امر
 معروف کبر بودند ارشاد میفرمودند تا بحدیکہ پنجاہ و چہل کس را بہ یک نظر با کمال
 وصال میرساندند۔ غلغلہ ارشاد حضرت مخدوم عبدالرشید در ممالک و اطراف مشہور بود
 و در علم تدریس نص و حدیث لاثانی بود۔ خلق استفادہ میگردیدند۔ ہفتادتن از علم ایشان
 شاگرد کامل و بہ فضل شامل گردیدند۔

یک شب در مطالعہ مکتوبات بمعہ (مع) عالمان و قاضیان محاسبہ و مباحثہ می نمودند تا
 کہ یک پاس از شب باقی بود کہ خواب بر ایشان غلبہ کرد، در خواب شدند۔ بمعہ (مع)
 پدر بزرگوار ملاقات فرمودند۔ او شان گفتند کہ آی فرزند بعد چہار روز حضرت شیخ بہاء

الدین برادر عم زاده شمن بمعہ (مع) حصول مطالبات دینی و دنیاوی از سمت بیت اللہ در ملکن میرسد۔ شمن را باید کہ ہمیشہ خود را بلوشان متعقد سازی و توبہ زیارت حرمین خواہی رفت از آنجا حصول سعادت و نعمت کہ از روز ازل در نصیب شمن است و بقیہ را در ہمدان (۴۹) تخص خواہی کرد۔ مخدوم از خواب بیدار شد و از آمدن برادر خوشدل شد و از اشتغال دنیوی دل را مضرب گردانیدہ مختصر میجا بود۔

نقل است کہ بعد از چہارم روز در اندر کوٹ ملکن دیو دروازہ تشریف فرمودند۔ وقت نماز عصر بود فوت میشدی۔ طلب آب فرمودند۔ چاہ ترش و تلخ (ص ۲۲ الف) بود و دیو بر چاہ حاضر نبود۔ نظر مبارک در چاہ فرمودند، آب چاہ بفضل رب العالمین بالا آمد۔ وضو کردہ نماز گزار دند و کف دست خود در چاہ کردند، آب چاہ شیرین شد۔ این خبر بخدومت مخدوم عبدالرشید رسانیدند۔ ایشان فی القور سوار شدہ آمدند و بمعہ (مع) شیخ بہاء الدین برادر خود ملاقات کردند۔ بعد ملاقات بہ سمت دولت خانہ ہر دو برادر تشریف آوردند و فاتحہ خوانی والدہ شریفہ عقیقہ در پیش کردند۔ بعد القراغ فاتحہ خوانی مخدوم عبدالرشید ہمیشہ خود باسم بی بی بہران خاتون بمعہ (مع) شیخ بہاء الدین متعقد ساخت و ہفت فرزندان تولد شدند۔

اول : شیخ صدر الدین عارف باللہ

دویم : مولانا برحمان الدین

سوم : مولانا قدوة الدین

چہارم : مولانا خمس الدین

پنجم : مولانا شہاب الدین

ششم : مولانا ضیاء الدین

ہفتم : مولانا علاء الدین

مخدوم عبدالرشید مال و ملک و خزانہ تفویض شیخ بہاء الدین نمود و وداع علیہ۔ شیخ بہاء الدین فرمود کہ ای برادر مدت کامل بسر آمدہ کہ فقیر بحسب قسمت آنچہ از دولت ملاقات دیدار محروم و در فراق ایشان مضرب می بود و الحال آن برادر میری شوید

نوعی قبول نیست۔ مخدوم ظاہر کرد کہ چنانچہ آن برادر محسب نصیب آنخورد رفتہ بودند
 همچنان بندہ را حکم شدہ این بگفت و از آنجا وداع کرد و ہفت کس خلوم ہمراہ داشتہ
 روانہ بطرف حرمین (ص ۳۳ ب) گردید و شیخ بہاء الدین بر ملک و مملکت و خزائن محکم
 گردید۔ مخدوم عبدالرشید از ملتان در شہر ہریو (۳۹) رسید۔ آنجا شیخ نصیر الدین صاحب
 مراتب و کشف و کرامات بود۔ بخدمت ایشان ملاقات فرمودند۔ (پرسیدند) کہ شما از
 کجائی آئید۔ مخدوم فرمود کہ از خطہ دار الامان ملتان فرمودند کہ شیخ بہاء الدین را ہم
 میدانید؟ ایشان عرض کردند کہ برادر عم زادہ فقیر است الحلال از بیت اللہ در ملتان
 رسیدہ۔ مجدد شنیدن برخاست و در کنار گرفت و معذرت بسیار کرد و اندرون حجرہ برد۔
 ہفت روز نزد خود داشت و نصیب کہ از ہمت کاملہ ایشان بود مخدوم توجہ فرمودند و
 وداع کردند و از آنجا بہ تہریز (۵۰) در خدمت سید حسینی (۵۱) کہ یکی از کلمان و واصلان
 حق بود برادر حضرت جلال الدین تہریزی (۵۲) کہ در شہر تہریز صاحب کشف و کرامات و
 زبده مشایخان اکبر بود و بہ شیخ بہاء الدین صحبت بسیار داشتہ شرف ملاقات حاصل شد۔
 شناختہ بسیار توجہ فرمودند و گفت ای عبدالرشید کیفیت برادرم شیخ بہاء الدین بفرمای۔
 عرض کردم کہ اوشان در ملتان جنت المکان جمعیت دارند۔ فرمود کہ انشاء اللہ تعالیٰ
 عنقریب بوصول برکمال اوشان رسیدہ خواہد شد۔ ہر دو مشایخان از ہمت عالی خود باین
 فقیر التفات فرمودند۔ از آنجا بخدمت شیخ نجم الدین (۵۳) اتفاق ملاقات افتاد۔ اوشان
 نیز توجہ فرمودند۔ از آنجا کہ این فقیر را اشتیاق کمال بہ رسیدن (ص ۳۳ الف) حرمین
 شریفین بود۔ شب (و) روز منازل و مراحل بریدہ امید بفضل آن قادر جی و قوم نمودہ
 در حرم کعبہ رسیدم۔ حج ادای نمودم۔ بعد از ازا بہ روضہ سرور کائنات سرد فتر
 موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسیدم و سہ سال در مجاورت روضہ منورہ
 گذرا نیدم و در خدمت شیخ کمال الدین میبودم۔ یک شب از حضرت سرور کائنات
 ارشاد شد کہ ای عبدالرشید نصیب شما از نزد سید علی ہدائی (۵۴) است برو در
 آنجا۔ این فقیر (از) حضور پر نور مرخص شدہ راہ شہر ہمدان (۵۵) پیش گرفت۔ از
 کنارہ دریا مراحل شدہ چون در بندر سکندریہ رسید (۵۶) در آنجا زمین بندر مقدار ۱۰
 بیگمہ پرہ (A-۵۶) پیدا می شود و مردمان محاصر و احل حکم بر آن زمین مقید اند۔ در

اتجا یک فقیر سوپا برحت در مکان حجر استخراق میداشت۔ نزدیک آن بزرگوار ر قلم۔
 بفضل پروردگار در عالم صحر آمد و ترحم فرمود و گفت کہ سمت حمدان میروی؟ عرض
 نمودم کہ ازان صاحب کشف و کرامات بیچ پنهان نیست۔ فرمود کہ زود رو کہ آن میعاد
 نصیب شکور رسیده، باز در مکان حجر مستغرق گشت۔ این فقیر حجر از دریا در ولایت عبور
 نمود برکت زیارت درویشان اهل طهارت کہ در آن نواحی بودند نعمت سعادت ابدی
 حضرت سلطان المشیح والمکت مصطفوی و آن برهان دین (ص ۲۳ ب) محبت نبوی
 و آن پرورده سلک نبوت و آن خواجه دلیل قنوت و آن متمکن ولایت و آن متوکل ہدایت
 بندگی سید علی ہمدانی کہ ایشان محبت داشتند با ابوالقرح طرطوسی (۵۷) و او محبت
 داشت با شیخ عبدالواحد (۵۸) و او محبت داشت با شیخ شلی (۵۹) و او محبت داشت با امام
 موسی رضا (۶۰) و ایشان محبت داشتند با امام موسی کاظم (۶۱) و ایشان محبت داشتند با
 امام جعفر صادق (۶۲) و ایشان محبت داشتند با امام باقر (۶۳) و ایشان محبت داشتند
 با زین العابدین (۶۴) و ایشان محبت داشتند با امام حسین و ایشان محبت داشتند با حضرت
 سرور کائنات محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ملازمت حاصل کرد۔ حالت فیض رانی
 ایشان این بود کہ در مفاصلہ یک کروز دو حجره معمور فرموده بودند۔ یک سال چلہ در یک
 حجره ادا میفرمودند۔ ہمز ختم چلہ بیرون از حجره تشریف می فرمودند۔ مردان نایک سال
 جمع میشدند۔ روز تحت چپا و راستا مردان صف بستہ استوار میشدند۔ حضرت سلطان
 المشائخ بصوب حجره ثانی رحلت تشریف میفرمودند، چپا و راستا بر مردان نظر
 میفرمودند۔ مردان راستا در مرتبہ غوثیت (۶۵) میگشتند و مردان چپا در مرتبہ
 قطیبت۔ (۶۶) این فقیر در صف مردان راستا استوار بود۔ حضرت سلطان العارفين نظر
 ترحم فرمودند۔ فقیر در دنبال آن برهان المکت (ص ۲۳ الف) والدین روان گشت۔
 چون بر دروانہ حجره ثانی قدم رنجہ فرمودند بر بندہ نظر کرد و از زبان دربار و گوہر نثار
 فرمود کہ عبدالرشید اندرون بیا۔ بندہ بحکم اندرون حجره رفت، آنچه نصیب از حضرت
 صحت منقسم بود عطا فرمودند۔ از حد زیادہ افاضت و موبہت فرمودند۔ دوگانہ شکرانہ
 بجا آوردم۔ حالت این فقیر بہ حد اعلیٰ رسید۔ فرمودند کہ ہمز در حجره مسجد جمعیت کن۔
 فقیر را از فرش تا عرش بیچ تجلی در نماید۔ فقیر یک سال در حجره مشغول بہ حق بود۔

بعضی روز حضرت سلطان المشائخین بنده را در حجره ریاضت یاد میفرمودند۔ بنده بکثرت مشرف بہ فیض جدید مستغنیض میشد۔ مریدان کثیر الجماعت در خدمت آن سلطان المشائخ قدیم نشسته بودند۔ رگ حسد حرکت کرد کہ میان رامت مزید (مدید) و عمد بعید در خدمت شیخ العارفین مداومت میداریم نظر ترحم بہ میان مبذول نہ شدہ و این درویش مسافر در ایام معدودہ فی الغور بہ مراتب اعلیٰ رسید۔ بعد تہنیت چلہ حضرت اعلیٰ از حجرہ تشریف بیرون آوردند۔ مریدان تمامی جمع شدہ دست بستہ بزبان عجز و نیاز بہ عرض آمدند کہ ای بحر فیوض الہی و ای صاحب کرم نامتنامی کہ این احقر الطالب در گاہ بودند کسی رامت بیست سل و کسی رای سل است کہ دست سوال پیش ساقی زلال ذوالجلال افراختہ حتی الحین قطرہ (ص ۲۳ ب) اکسیر الذات در قدح قلیل (و) کثیر مقطر شدہ تا عطشان از حلق این احقر الحلق فرو شیند، لمحہ انوار از شوق ذوق احسان عیان بیند و این درویش ہندی بہ اقل ایام بہ صد لطافت و اکرام مکرم و معزز شد۔ بنیم کہ مرید صاحب نجی و نواید خلاصہ لاری در جبہ ۔۔۔ حضرت سید علی از حجرہ تشریف فرمودند کہ عبدالرشید فرزند ارجمند طالب کار حدیثی احتیاج ما (تا)۔ شباز ہمت ایشان بلند پرواز است۔ مریدان مدت ہاجرہ نصیب شان از قدح ہدایت تمکین ۔۔۔ و تمامی مریدان بحکم حضور متوجہ این احقر گشتند و فقیر جرہ اذلی کہ در قدح این احقر مقطر شدہ بود بحکم مہربی کامل بہ این ہا رسانید و ارشاد اجازت بعد از مدت سہ سل تلغین فرمودند کہ ای عبدالرشید بہ وطن اصلی خود مراجعت کن، در خطہ جنت المکان مکن استقامت دار و از علاقہ دنیا ترک کن و خود را متوکل گردان و آنچه اسکن داری تمامی در راہ حق نثار کنی و خاکساری پیشہ داری و زینت بر خود روانداری و سجانہ از اولاد خود مقرر کنی و روضہ و خانقاہ خود بنا نخواستی کرد و کسی را مریدت کپ (۶) نہ نمایی تا اجابت کامل بزبان از اولاد تو از قاور ذوالجلال عطا خواہد شد و خاکساری تو بہ روضہ مزین ہمتا تواند شد و مریدان کل پیروی حکم فرزندان تو بجا خواہند آورد و اولاد تو (ص ۲۵ الف) محتاج یکدیگر نخواہند شد و مرض فرمودند۔

نقل است کہ چون مخدوم عبدالرشید از مہربی کامل خود رخصت شدہ روانہ طرف مکن شد حالات بسیار از واردات الہی و فتوحات نامتنامی ظاہر گشت و آتش شوق ربانی

چنان شعله افروخت که ساحت جسمانی و فہم انسانی تمامی تلف شد۔ مخدوم موحد حقیقی در راہ در غاری داخل گشتند و چشمان تھیر بر آسمان بستند تا مدت شش ماہ از خوردن و آشامیدن و پوشیدن بچ خبر نگیرد۔ شیخ عبداللہ خادم کہ رفتن سفر بود او نیز مدت ہمراہ ماند آخر چون مخدوم در عالم صحو نیامد ہمانجا گذاشت روانہ بطرف ملتان شد۔ چون درین جا رسید کیفیت تمامی پیش شیخ المسلمین حضرت شیخ بہاء الدین "مشروحا" عرض کرد۔ شیخ بہاء الدین "این احقر را طلبیدہ و سمت کویستان ہمراہ شیخ عبداللہ برای آوردن مخدوم عبدالرشید روانہ کرد۔ این احقر العباد فرمودہ شیخ حضرت بہاء الدین روانہ گشت۔ بعد مدت بر سر عمار رسید۔ مخدوم در عالم تھیر مستفیض (مستغرق) بودند، مجدد رسیدن این احقر در عالم صحو آمدند و پرسیدند چرا قدم رنجہ را فرمودید؟ عرض کردم کہ بندہ را حضرت شیخ بہاء الدین زکریا برادر عم زاوہ ایشان بخدمت عثمان فرستادہ کہ مخدوم صاحب در ملتان تشریف فرمایند، ہرچہ حکم شود۔ مخدوم عبدالرشید از (ص ۲۵ ب) مصلا برخاست و ہمراہ این احقر العباد روانہ بطرف ملتان گردید لیکن مخدوم مستغرق وحدانیت گاہی نحو در شوق و گاہی با جذب می بود۔ بخریت در ملتان رسیدیم۔ بخدمت شیخ بہاء الدین و تمامی برادران ملاقات نمودند بعد چند روز شیخ بہاء الدین فرمود کہ ای برادر این ملک و مملکت و خزاین ملک شماست در ضبط خود باید داشت کہ نزد اجنبان امانت بود فہمیدہ بگیرند۔ مخدوم عبدالرشید جواب داد کہ ای برادر بموجب فرمودہ مربی کامل از دنیا و کارخانہ دنیا ترک گفتہ ام۔ از آبادی ویرانہ و پذیر دار میدانم۔ این ملک و اسباب و خزاین ذمہ شماست۔ شیخ بہاء الدین فرمود کہ مارا قبول نیست۔ عاقبت الامر بعد جواب سوال بسیار همین مقرر شد کہ ہمہ اشیاء و خزاین و ملک در میان خود ہا قسمت باید کرد کہ حق العباد ذمہ کسی باقی نہاند۔ ملک را از دریا راوی قرعہ انداختند۔ قرعہ ملک طرف شرق راوی در حصہ مخدوم عبدالرشید آمد و طرف غرب راوی در حصہ شیخ بہاء الدین آمد و دیگر اسباب نصف تقسیم فرمودند و کور اشرفی و نقد دیگر و اجناس ہم یک یک حصہ در تقسیم خودہا آمد۔ مخدوم عبدالرشید تمامی نقد و اجناس را در تصرف درویشان و مساکینان (مساکین) فی سبیل اللہ وقف کردند تا بحدیکہ بھمت خرج شبینہ باقی نہاند و آن روی دریای راوی (ص ۲۶ الف) حجرہ ساختند و بحق مشغول

گفتند حضرت شیخ بہاء الدین ہشتم روز برای ملاقات برادر خود مخدوم عبدالرشید شریف میفرمودندی تا روزی فرمودند کہ ای برادر علاقه قبایل و برادران شما بسیار است، لازم کہ برای ایشان جای سکونت می باید کرد تا ہر کس آرام یا بد۔ فرمود کہ موازنہ وہ کورہ از ملتان طرف شرق قطعہ زمین از ابوالفتح و تاج الدین قوم مل (۶۸) در میان دو نالہ کلان خریدہ ایم سکونت در آنجا خواہم نمود خاطر شریف جمع فرمایید۔

نقل است کہ آن سلطان الملت مصطفوی و آن برہان المخلص دین نبوی و آن زبده سلک نبوت و آن نقادہ دوہمان فتوت و آن متمکن عنوان ہدایت و آن متوکل نشان ولایت و آن پیشوای یقین و آن مقتدای راہ دین و آن گرہ کشای پردہ وحدت و آن ذابنمای طریق معرفت و آن آفتاب آسمان کرم و آن بحر مواج حلم و علم و آن بلبلہ حیا و صفا و آن معدن جود و وفا و آن شمس افلاک معرفت و آن قمر اوراق کرمت و آن برگزیدہ صاحب اصحاب فتوت و الجود و آن زبده اولیای معبود و آن بدر عارفان ہدایت و آن کامل بارگاہ عنایت و آن خلیفہ الہی و آن داعی نامتہای و آن سلطان شریعت و آن برہان طریقت و آن صادق ورع و آن عالم شرع و آن قدوة الواطین و آن عمدة الکاملین و آن مرشد الطالبین و آن شیخ المشائخین (ص ۳۶ ب) بندگی حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی القریشی الاسدی (A-۶۸) الکبیر المنیر قدس اللہ سرہ العزیز ادام اللہ فتوحہ از حجرہ تجرید کنارہ دریای راوی بمعہ (مع) قبایل و برادران و متوسلان سمت زمین خریدہ خود کہ از مرلان مذکورہ خریدہ بودند روانہ شدند و شیخ الاسلام والمسلمین شیخ بہاء الدین بمعہ (مع) ہمہ فرزندان و شیخ فرخ (فخر) الدین عراقی (۶۹) و مخدوم سید جلال الدین بخاری برای رسانیدن اسباب و قبایل با مخدوم صاحب روانہ شدند و در زمین میسہ خود رسیدہ مستقیم گردیدند۔ چند روز شیخ المسلمین در آنجا سکونت فرمودند بعد از چند روز مرض شدند۔ شیخ ابوبکر و شیخ محمد تا چند کورہ ہمراہ (آمدند) باز رخصت شدند۔

حضرت مخدوم عبدالرشید در زمین میسہ خود در عمارات مروانہ و زنانہ اشتغال ورزیدند و بنای قلعہ سواد خانہ خود مرتب ساختند و پیشہ زمینداری و کشتاری زراعت اختیار کردند و نالہ از دریای راوی بہ تمشل دریا کندانیدہ آوردند۔ در آنوقت تمامی از دریای راوی آباد بود و ہمہ زمین سیراب میگروید و ہر کس را از متوسلان (متوسلان)

خود زمین قسمت کرده تفویض ساختند کہ بہ اختیار خود کشتار کردہ در شغل عبادت و ریاضت لیل و نهار اشتغال داشتہ باشند۔

نقل است کہ ابو الفتح و تاج الدین از دار فناء بدار بقا (ص ۱۲۷) رحلت نمودند و فرزندان آنها علی و شہ علی نام من بعد رحلت پدران بمعہ (مح) مخدوم صاحب دعوی قیمت زمین نمودند کہ بما زسیدہ و (بہ) طریق عتاد مباحثہ را پیش کردند۔ ہر چند مخدوم صاحب بہ اوشان نصائح کرد قبول نکردند، روز (و) شب طریقہ خراشیدگی پیش گرفتند۔ چون نصیحت نامحمان بہ ہر دو برادران را اثر نکرد مخدوم صاحب فرمود کہ بروید ہر دو برادر از زیر مصلائی حضور (بہ) قدر قیمت زمین کہ دانند شمرہ بگیرند۔ چون اندرون حجرہ رفتہ مصلا را برداشتہ تودہ زر سرخ در نظر ایشان افتاد تا شمرہ برداشتہ در خانہ خود آوردند۔ آنچه ارشاد قیمت زمین بہ زبان مبارک رفتہ بود درست ماند و دیگر تمامی کثرتہم گردیدند۔ حضرت مخدوم فرمود کہ نیت شما بد است، از پیش ما دور شوید۔ آنها در اندک روزها بہ عذاب گرفتگی و عسرت گرفتار آمدند در حین حیات در حضور آمدن نیافتند و در مقام گورستان بعد مرگ ہم جایی نیافتند۔ اگر مردہ در روز در گورستان مخدوم صاحب دفن کردی آن مردہ از قبر بیرون کشیدہ شدی۔ آن رو آرا برراہ اوشان افتادہ بودی۔ تا حال همین حکم است۔

نقل است کہ مخدوم صاحب کسب کشتار زراعت برای روزی حلال اختیار کردہ بود و رعایا مقومہ ملک را وجہ محصول کہ عشر میدادند بہ آنها بخشیدند لیکن ہر کس از راہ اعتقاد (ص ۱۲۷ ب) از حصہ محصول بخصور فصل بہ فصل برسانیدی و ایشان قبول فرمودی و آن را بہ حبہ اللہ صرف میفرمودی و خرج مساجد و چراغ می نمودی و خرج خانہ و لنگر از خود کاشتہ کردی و پوشاک قفل پشینہ میداشتی۔ لیل و نهار در صوم و تحیر و استغراق محوی بودند۔ بدون ملاقات ہم مشرب در عالم صحو نیامندی۔

نقل است کہ مخدوم صاحب مخدوم عبدالرشید را درد پہلو شد و از درد بسیار متحیر گردیدند۔ چون وقت شب شد رجوع بہ حضرت علیہ السلام آوردند و عرض کردند کہ یا رسول اللہ کہ درد مرا حیران ساختہ۔ ارشاد شد کہ در پہلوی شما نقطہ قطب است و

استخراج او از بطن دختر خنک (تعلق) (۷۰) بادشاہ دہلی است تا وقتی کہ خروج نطفہ نخواہد شد درد دفع نشود۔ مخدوم عرض کرد کہ آن بادشاہ و بندہ گدا، چگونہ اتفاق افتاد بدون عنایت حضور؟ ارشاد فرمودند کہ علامات ناری شمان تفویض است؛ بطرف دہلی روانہ نمایند۔ آن علامات گرفتہ طرف دہلی روانہ نمودند۔ بجز رسیدن دہلی در چشم خنک (تعلق) بادشاہ سرایت کرد۔ آنچه آب و طعام پیش بادشاہ می آوردند تمامی بہ غلاطت مبدل می شد۔ از وقوع این حادثہ بادشاہ جان بلب رسید۔ ایچی بطرف شیخ الاسلام والدین شیخ بہاء الدین بجمت دفع این حادثہ مہائل (ہائل) روانہ کرد کہ بخدمت شیخ المسلمین ارادت و اعتقاد بسیار می داشت۔ چون ایچی بہ ملتان رسید و کیفیت احوالش (ص ۱۲۸) عرض رسانید شیخ بہاء الدین فرمود کہ معالجہ این مصیبت صعب از برادر مخدوم عبدالرشید خواہد شد۔ القصہ حضرت شیخ بہاء الدین بمعہ (مع) ایچی سوار گردیدہ بخدمت مخدوم عبدالرشید تشریف فرمودند و حالت آن شیخ موحد آنوقت این بود کہ بمعہ (مع) چہل کلبہ رانی جاری داشتند در زمین کشتار میکردند۔ ایچی شیخ بہاء الدین آمدہ سلام دادند۔ جواب سلام از مخدوم صاحب حاصل شد و در کلبہ رانی جاری داشتند۔ چون باز نزد ایچی رسیدند جواب سلام فرمودند کہ و علیکم السلام و استادہ ماندند۔ ایچی عرض کرد کہ یا حضرت آن صاحب شرع شریف و فرض اللہ تعالی را واقف اندو عجب کہ جواب سلام فی الفور ندادند باعث تاخیر چہ بود؟ فرمودند کہ فقیر درین جانبور دہلی رفتہ کہ خانہ بادشاہ خنک (تعلق) را آتش گرفتہ و عاجزہ السلطان خنک (تعلق) کہ موجب فرمان حضرت حق سبحانہ حرم انجناب است در محاصرہ آتش آمدہ بود، آن مستورہ را از آتش خلاصی دادہ آمدہ ایم، باعث تاخیر جواب سلام همین بود۔ درین استماع آن ایچی متعجب شد۔ ہمون روز و وقت آن روز و تاریخ واقعہ بدست قاصد بمعہ (مع) کیفیت بطرف دہلی روانہ کرد و حضرت شیخ المسلمین و مخدوم بایکدیگر مصافحہ کردند و در خلوت شستہ و مصلحت شمرند کہ فکر این باید کرد۔ آن برادر و این جانب روانہ بہ دہلی خواہیم شد۔ القصہ ہر دو برادران بصوب دہلی دیرہ کشیدند۔ بعد از پانزدہ روز قاصد باز از (ص ۲۸ ب) دہلی آمد و کیفیت محاصرہ آتش بر مستورہ محصومہ ظاہر ساخت کہ اندرون اہل پردہ گواہی دادند کہ یکی فقیر پشینہ پوش مرا

از آتش بیرون کشیده و خلاصی داده۔ ازین واقعہ اپنی معتقد گشت و حلقہ مریدی و متابعت در گوش خود انداختہ۔ چون ہر دو مشائخنا روانہ طرف دہلی فرمودہ و در قصبہ لاہور رسیدند آن زحمت از سخلک (تعلق) بادشاہ دفع شد و صحت گردید۔ بخد مت شیخنا آمدہ در لاہور رسید و عرض کرد کہ ای پیر و بھگیر بکت رخ کردن این طرف شما (زحمت) دفع شد۔ چون در دہلی با بادشاہ تشریف فرمودند تمامی امیران و وزیران بہ استقبال شرف سعادت حاصل ساختند و مکان نزول بہ بارگاہ سلطان سخلک (تعلق) بہ شرف پا بوس مستفید شد۔ حضرت شیخ بہاء الدین کیفیت عقد معصومہ انکشاف فرمود۔ لاچار آن سلطان دہلی قبول و منظور کرد۔ وقت شب جمعہ شگون و خطبہ آن معصومہ بہ مخدوم عبدالرشید فرمودند و منعقد ساختند۔ آورده اند کہ والدہ شریفہ بیغم (بیگم) سلطان خواہش نمود کہ شوہر عاجزہ خود را مشاہدہ خواہم کرد۔ وقت دخول ایست معاینہ و مشاہدہ کرد کہ بزرگ ضعیف و معمر است و معصومہ خورد سال، از تاسف و تفکر سخلک آتش برداشت و بر پوشاک و سر مخدوم عبدالرشید انداخت۔ تمامی (ص ۱۲۹) انگر آتش جواہر و مروارید گشت و ہر کس چھوٹا چیدن گرفت و آن مستورہ بیگم از کردہ خود منصل شد و معتقد گشت۔ مدت دو سہ ماہ در آنجا سکونت داشتند۔ بعدہ بانال و متال و اساس (اثاث) شاہانہ رخصت شدہ بخیر و عافیت در ملتان تشریف فرمودند و مخدوم صاحب بمعہ (مع) اہل پردہ بادشاہزادی معظمہ خاتون بسیار رغبت میداشت۔ بعضی اوقات کہ بہ عالم صحوی آمدند میفرمودند کہ از بطن شامیک فرزند تولد شود کہ اسم آن مخدوم حسن در لوح محفوظ نوشتہ است۔ در مراتب قطب الاقطاب خواہد شد و از تصرف آن بسیار درویشان عالی ہمت خواہند شد۔ آورده اند بعد از یک سال از بطن بی بی شاہ بیغم (بیگم) بتاریخ بیست و ہفتم رمضان المبارک وقت یک پاس شب گذشت متولد شد۔ اسم آن فرزند مخدوم حسن مقرر کردند۔ نامہ روز از پستان مادر شیر خورد۔ بہ روزہ طیب مشغول ماندہ بروز غرہ شوال ایام شریف فطر روزہ افطار کرد۔

آورده اند کہ موی سر آن مخدوم زادہ بہ لمحہ نورانی بمثل شمع تابان و درخشان بود و در ہر ماہ سہ روز روزہ طیب می داشتی و از پستان دایہ شیر خوردی و از ذکر زبان شب و روز بند نمی کردی تا وقتی کہ مخدوم زادہ در عمر چہار سالہ شد تفویض استاد کہ در علم

نص و حدیث عالم کامل بود فرمودند۔ در پنج سال تمامی (ص ۲۹ ب) علم نص و حدیث
 همه حاصل کردند و در نه سالگی علم نص و حدیث طی المکان گشت۔ هر عالم که از ویاری
 آمد به ایشان مباحث امتحانی می کرد همه کس مغلوب میشد۔ صاحب وجد و رقص بود در
 کشف و کرامات بی انتہا و بی ہمتا بود و ہموارہ از پدر بزرگوار تلقین میگرفت۔ روز بروز
 در مراتب علو درجات، میشد۔

آورده اند کہ یک روز مخدوم العالمین مخدوم عبدالرشید در حجرہ نشسته بودند کہ
 قاصد معہ مکتوب از شیخ المسلمین شیخ بہاء الدین رسید و مکتوب بخدمت مخدوم عبد
 الرشید رسانید۔ نوشته بود کہ لعل شہباز (ع) بمعہ (مع) جماعت کثیر آمدہ و ملتان را
 محاصره کردہ از راہ کرامت خود را بر شیر سوار گردانیدہ در نواحی میگردد و عالم باشندگان
 ملتان را خراب و تاراج میسازد و بازوی قاضی قطب کاشانی (ع) طلب میکند و آن
 برادر را شایان و لازم کہ خود را در سبنا تشریف فرماید۔ مخدوم عبدالرشید ہر سہ فرزندان
 علیحدہ فرمودند کہ زود تیار شوید و (بہ) شرف ملازمت عمو بہرہ اندوز شوید۔ محمد حسن
 عرض کرد کہ یا حضرت این غلام را حکم فرمایند کہ بہ امداد دعای آنحضرت و بفضل
 پرورگار ذوالجلال والاکرام رخصت فرمایند و خود این جا استقامت دارند۔ مخدوم صاحب
 بر سر فرزند بوسہ داد و بر زر گاؤ سواری فرمودند کہ برو ترا بخدا سپردم۔ مخدوم حسن
 (ص ۱۳۰) بر زر گاؤ سوار گردیدہ روانہ طرف ملتان گشت۔ چون متصل کنارہ دریای
 راوی رسید سواری حضرت لعل شہباز در آمد و بہ نور باطن دریافت کہ این طفل فرزند
 مخدوم عبدالرشید برای مقابلہ و مباحثہ میان عمو معاون حضرت شیخ بہاء الدین می آید۔
 انتقام (انتقام) مقابلہ اسبجا باید کرد کہ ہجوم عالم از حد زیادہ استادہ لعل شہباز بہ آواز
 بلند گفت "ای طفلک زرگاؤ خود را از راہ دور کن والا نہ این شیر زرگاؤ را خواہد
 کشت"۔ مخدوم حسن گفت "ای مردک خورد شیر خود را از راہ دور کن والا نہ این
 زرگاؤ شکم شیر را بہ شاخ خواہد درید"۔ درین (ازین) جواب لعل شہباز از غصہ پیچیدہ
 و شیر را بر زرگاؤ دو انید و زرگاؤ از غصہ خاک بہ سنبہ پای بالا برداشت میکرد۔ چون شیر
 نزدیک زرگاؤ رسید زرگاؤ حملہ کرد و شیر را بالای سر برداشت چنان بزور شیر را انداخت
 کہ از ملتان تاہشت کرہ بمعہ (مع) لعل شہباز رفتہ بیفتاد و لشکر تمامی بگریخت۔

خلقت عام متحیر شدند و مخدوم حسن در جذب و مست گشته و خلقت هجوم صفت می آمدند، بخدمت شیخ بہاء الدین روانہ گروید و در راہ زنی ہند و نشسته گریہ و نالہ میکرد۔ مخدوم زانہ پرسید کہ ای عورت (ص ۳۰ ب) چرا گریہ و نالہ میکنی؟ گفت ” دو پسر من لعل شہباز زخمی کردہ خون بسیار جاری میشود و نزدیک مردن افتادہ“۔ فرمودند ” او را کہ خاک سم زگاؤ من گرفتہ در زخم و دهن پسران بینداز۔ بامر اللہ صحت گردد“۔ عورت ہندوانی خاک سم زگاؤ گرفتہ در زخم و دهن پسران انداخت، خدای عزوجل ہر دو را صحت بخشید و حلقہ بگوش مخدوم زانہ شدند۔ در حضور شیخ بہاء الدین رسیدہ تسلیمات بجا آورد۔ شیخ بہاء الدین از مسند برخاستہ بر سر مخدوم حسن بوسہ دادند و از زبان مبارک فرمودند کہ ای فرزند در درگاہ قادر بچون چندان گستاخی مناسب ندارد و ہمراہ گرفتہ بہ خانہ رفتہ دو سہ روز نزد خود داشتہ بعدہ خطاب فرمودند کہ نام حسن بلا اقلن ” است مرخص فرمودہ بخدمت مخدوم عبدالرشید رسانیدند۔

نقل است از شیخ فرید الملت والدین حضرت شکر حج کہ یک روز برادر مخدوم عبدالرشید و این فقیر در قلعہ ہانسی نار (?) کجا بودیم و عبد اللہ قوال این بیت در سرود
ی نواخت

آنکس کہ بہ معبود سرا سر نزدیک است از جان عدم گشت زموی باریک است

از سماعش در برادر مخدوم وجد و ذوقی پیدا شد، در رقص آمد۔ از کمال استغراق حال ہمید بر آسمان (ص ۱۳۱) رفت، دامنش بگرتم و باز آوردم۔ باز پرواز کرد از ہفت طبق آسمان بگذشت۔ باز دامنش بگرتم و در حجرہ آوردم، بعدہ اشارت بہ عبد اللہ قوال نمودم، خاموش ماند و شعلہ تجلی شوق از سر برادر مخدوم برخاست۔ تاریکی شب از حجرہ بمثل روز منور گشت۔ شبانروز برادر مخدوم در استغراق محو ماند۔ بعدہ در عالم محو آمد۔

نقل است از شیخ فرید الدین شکر حج کہ یک روز برادر مخدوم عبدالرشید و فقیر کجا بودیم۔ ذکر در مجاہدہ رفتہ۔ مخدوم فرمود کہ اندک مجاہدہ من این است کہ مدت سی سال است کہ جرہ آب بعد ہنتم روز بخت افطار بہ نفس خود دادم، یک کاسہ آب درین سی سال پختانیدم و یک اٹار آرد جو درین مدت بہ نفس روا داشتم و درین مدت

به دوپای استاوه در حضور حق استاوه ماندم ہیج تشویش نرسیده۔

نقل است از شیخ فریدالدین شکر گنج[ؒ] کہ برادر م شیخ بہاء الدین[ؒ] و این فقیر در مکان یکجا یونیم ذکر در مجاہدہ و ریاضت افتاد۔ فرمودند کہ مراتب برادر م مخدوم عبدالرشید[ؒ] در قرب الہی علو مکان است چنانچہ این فقیر در رسد۔ مخدوم عبدالرشید[ؒ] یارای تعدیل نمی دارد۔ ہو اقرب اللہ و اقربہ، چنانچہ خلقت جسم و جان برادر م ماسوی اللہ یک موی فراغت نمی دارد۔ ہرچہ از جسم ایشان خروج میشود از سرفارغ نیست۔

نقل است کہ مخدوم عبدالرشید[ؒ] را درد پشت پیدا شد۔ بخدمت حضرت سرور کائنات خلاصہ موجودات علیہ السلام در شب رجوع کردند۔ (ص ۳۱ ب) ارشاد شد کہ ای مخدوم عبدالرشید[ؒ] در صلب ثمان قطب ثانی است و استخراج آن از بطن عاجزہ رای الونہ کچی (۷۳) است۔ برو او را در عقد نکاح خود منعقد ساز۔ وقتی کہ در بطن آن دخول خواہد کرد درد پشت ثمان دفع تواند شد۔ حضرت مخدوم عبدالرشید[ؒ] از حضور مرخص گردید۔ بطرف قلعہ راج گمر (راج گڑھ) (۷۵) تشریف فرمودند۔ ملازمت بمعہ (مع) رای الونہ کردند۔ رای الونہ تسلیمات بجا آورد، اندرون دولت خانہ خود گرفتہ برو۔ چند روز در آنجا سکونت فرمودند و کیفیت دختر ظاہر کردند۔ رای الونہ عرض نمود کہ بندہ فرمان بردار است فاما حالت ضعف عمر آنحضرت بعد سال اتصال دارد۔ غلام زاوی در عمر خورد سال است و ابو صالح و سارنگ غلام زاوہ ہا ازین واقعہ مانع آید۔ اول آنها را راضی بکتد بعدہ، مختارند۔ سارنگ جواب داد ابو صالح آما نمود و گفت کہ تا باقی عمر آن صاحب درین غریب خانہ بیاذ حق مشغول باشند و بندہ در خدمت گذاری رجوع خواہد ماند۔ مخدوم صاحب[ؒ] فرمودند کہ بعد از عقد نکاح اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و پیش از عقد میعاد باز گشتن میکنم۔ ابو صالح عرض کرد کہ بندہ زمیندار است و بر عقد کار خیر عالم رعایا و شرفای قرب و جوار را ایما خواہند داد۔ آنصاحب نیز بہ تجمل لباس و اسبان و جماعت کثیر ہمراہ خواہند آورد۔ حضرت مخدوم صاحب[ؒ] (ص ۱۳۳) بحصول مراتب میعاد شخص فرمودہ باز بطرف دولت خانہ تشریف فرمودند۔ پیش ابوبکر و مخدوم محمد و مخدوم حسن فرزندان خود کیفیت ظاہر فرمودند۔ بخدمت شیخ بہاء الدین[ؒ] نوشتہ فرستادند کہ آن برادر با فرزندان بہمت میعاد کار خیر تشریف فرمایند۔ حضرت شیخ بہاء

الدین، شیخ علاء الدین و شیخ قدوة الدین و جمال درویش روانہ فرمودند و از فرزندان مخدوم ابوبکر و مخدوم محمد و مخدوم حسن جواب دادند کہ آزر دگی مادران برداشتن نمی توانیم آورد، خود رفتہ عقد نکاح بجای آرند۔ آخر الامر مخدوم عبدالرشید[ؒ] بمحہ (مع) برادر زادگان سمت قلعه راج گہر (راج گڑھ) تشریف فرمودند۔ چون در انجا رسیدند چہار کس بودند۔ ابو صالح آرزوہ خاطر گروید کہ مابین انتظام گاہ (گاہ) ودانہ و طعام وغیرہ ہزار کس مہیا کردہ ہونیم، آنصاحب بہ چہار کس ہمراہ تشریف فرمودند، نقصان مابین شود۔ مخدوم صاحب فرمودند ہر قدر گاہ و دانہ و طعام کہ نیت کردہ داشتہ اند یکجا کردہ آورند۔ چون آوردند مخدوم صاحب تمامی گاہ (گاہ) ودانہ پیش زرگاؤ[ؒ] بحکیرہ نہادند و طعام تمامی پیش جمال درویش کردہ، زرگاؤ و جمال درویش ہرگز سیر نشدند و گرسنہ ماندند۔ بعدہ، در اسعد وقت عقد نکاح کردند۔ تا ہفت روز علاء الدین و قدوة الدین و جمال درویش را ہمراہ داشتند۔ بعدہ، مرض (ص ۳۲ ب) شدند و خود در آنجا سکونت کردند و مسجد و حجرہ بنا کردند و بیاد حق مشغول گردیدند۔

نقل است کہ چون مخدوم صاحب گد خدا شدند سارنگ در دل اندیشید کہ این فقیر ضعف کمال دارد، مارا و ہمیشہ مارانگ و عار است، وقت شب در حجرہ این را بہ دار البقا رسانم۔ مخدوم صاحب از کشف باطن در یافتہ سارنگ را علیہند و فرمودند کہ ازین روز سرداری از نصیب تو موقوف است، خلعت ملک بہ ابو صالح از حضور عطا گردیدہ، تو بہ درویشان ایام زندگانی بگذار۔ سارنگ ازان روز فقیر شد و بہ حلقہ درویشان مسیر گردید، ملک را بگذاشت و خلعت سرداری بہ ابو صالح نصیب شد۔ روز (و) شب کربستہ در خدمت حاضر بود۔ مخدوم عبدالرشید[ؒ] مدت ہفت سال در قلعه راج گہر (راج گڑھ) سکونت فرمودند۔ از کہ خدائی بعد یک سال فرزند ارجمند چون آفتاب ز افق کرامت طلوع فرمود۔ ہفتم ماہ شعبان شب جمعہ ستہ ماہتہ و ششمین و ہفتمین (سنہ) متولد شد و نام ایشان شیخ صدر الدین نہادند۔ در طفولیت خبر ہفت طبقات آسمان و ہفت زمین می داد، بخدمت مخدوم صاحب و دیگر معلمان در ہفت سالگی علم شریعت تمام حاصل کرد و قرآن مجید را بہ ہفت قرات میخواند۔

در آن انشای مخدوم صاحب از ایشان رخصت علیہ کہ شیخ صدر الدین جمعہ بر سر

(ص ۱۳۳) دارد و بعد تراشی (۷۶) رسم برادران می باید و در آنجا خواهد شد۔ ابو صالح عرض کرد مختار رضای آنحضرت است لیکن آنچه اشیا های که بنام همشیره زاده تجویز نموده ایم از میان بگیرند۔ مخدوم فرمود که دنیا را ترک داده ایم اساس (اثاث) در کار نداریم۔ ابو صالح عرض کرد که آنچه بنده میداد ملک برخوردار است، آنحضرت هر چه دانند بکنند، عاقبت الامر ابو صالح از اسبان و از گاؤ میشان و ماو (ماوه) گاو ان و بز ان و میشان و شتران ماده و نر و غیره بهائیم و پارچه های ابریشمی و پشمی و زیور و نقد و ہم مواضعات آباد سوم حصہ تقسیم کرده نوشت حوالہ مخدوم صاحب (کرد) از آنجا بمعہ (مع) قبایل برخاستند و در زمین مقومہ قلعه آراستہ صدر الدین پور (۷۶) نام نهادند۔ والدہ شریفہ عقیقہ حضرت صدر الدین قاتل و عاقل بودند۔ در ہر دفعہ مالداری و پیشہ زمینداری خبر گیران بودند۔ حضرت مخدوم صاحب روز (و) شب در عبادت حق مشغول بودند۔

نقل است کہ حضرت مخدوم عبدالرشید دو سال در قلعه صدر الدین (۷۷) پور قرار گرفتند و کشت میکردند۔ یک روز مخدوم صاحب بیرون حجرہ نشسته بودند، دو کس قوم بہوش (بہوش) (۷۸) یکی رای دیون دویم رای جیون، از اولاد راجہ جیسل آمدہ قد مبوس نمودند و گفتند کہ این بنده ہا مرید حضرت مخدوم سید جلال الدین بخاری است و اوشان بد دعا کردہ است و بمایان باد گوز پیدا شدہ، برای دفع این زحمت بخدمت فیض درجت شیخ بہاء الدین زکریا رسیدہ بودیم۔ اوشان (ص ۳۳ ب) پاس خاطر حضرت جلال الدین فرمودہ دعا نکرہند و فرمودند کہ شما بصوب برادرم مخدوم عبدالرشید بروید کہ آن برادرم در حق شما دعا خواہند فرمود صحت خواہد شد۔ ازین ممر این بنده ہا بخدمت مشرف شدند۔ حضرت مخدوم صاحب دعا کردند بہ محل اجابت رسید۔ آن علت باد گوز از ان قوم بہوش (بہوش) دفع شد۔ بعدہ سید جلال الدین بخاری تشریف فرمودند و بر عدم علت باد گوز آن قوم بہوش (بہوش) اظہار فرمودند۔ مخدوم صاحب در فکر آمدند و شیخ صدر الدین را طلبیدند و فرمودند کہ این غلام زاده را در سلک مریدان خود سرفراز فرمایند۔ سید جلال الدین عذر آورد کہ بنده بمعہ (مع) اولاد مرید خاندان آنحضرت است ما را اوب است کہ درین جا دم پیری خود زنم۔ مخدوم صاحب فرمودند راست می

فرمایند۔ این چنین است۔ قلم خدمت صدر الدین را بمعہ (مع) اولاد مرید آن سید
الابرار نمودم۔ درین ضمن حضرت سید جلال الدین شیخ صدر الدین را طریقت مریدی
فرمود و موی جعد گرفت و خلعت داد و ایشان نذر نیاز پیش سید جلال الدین گذرا
نیدند۔ شیخ صدر الدین دست بستہ برخاست پیش پیر خود عرض نمود کہ یا پیر این قوم
بہوش (بہ) باین مرید جدید عطا فرمایند۔ حضرت سید الاابرار قوم بہوش بہ شیخ صدر
الدین بخشید و خود مرخص شد۔ بعدہ رای دیون مرید شیخ صدر الدین گشتہ برادر خود
رای جیون را بطرف بچہ واہن (۷۹) روانہ کرد (ص ۱۳۳) کہ تمامی قوم بہتیان را از
آنجا برخاستہ بیاید کہ باقی عمر بخدمت پیر خود گذران خواهیم کرد۔ آن قوم بہتیان تمامی
از ملک خود برخاستہ آمدند و در خدمت شیخ صدر الدین مرید گشتند و بہ شرف اسلام
مشرف گردیدند و مواضعات در زمین ویرانہ بستہ کشکار میکردند و نام موضع صدر
پوری نهادند۔

آمد در ماری (۸۰) رشید پور حضرت مخدوم سلطان عبدالرشید حقانی

رحمۃ اللہ علیہ

نقل است کہ مخدوم عبدالرشید برای جعد سترنی شیخ صدر الدین بصوب ماری
رشید پور بمعہ (مع) قبائل تیار شدہ واسبان و گاؤ بیٹان شیردار ہمراہ برو۔ چون در ماری
رشید پور رسیدند تمامی فرزندان آمدہ قدم بوس کردند و میعاد شادی جعد تراشی شیخ صدر
الدین شمر نمودند۔ بخدمت حضرت شیخ بہاء الدین مخدوم شیخ ابوبکر را برای اطلاع
فرستاد۔ شیخ بہاء الدین بمعہ فرزندان تشریف آوردند و با یکدیگر مصافحہ نمودند و شادی
جعد تراشی در پیش کردند۔ چون شادی بہ انجام رسید حضرت شیخ بہاء الدین فرمود کہ
برادر مدت است کہ شمار مسافری و از دولت و حال این جانب محروم لازم است کہ
باقی عمر درین جا گذران فرمایند۔ مخدوم صاحب قبول فرمودند و شیخ بہاء الدین مرخص
گشت و بصوب ملتان تشریف فرمود و حضرت مخدوم عبدالرشید در ماری رشید پور
سکونت و جمعیت فرمود۔ بعد از یک سال اموال مویشی و اسبان و شتران وغیرہ شیخ صدر
الدین علیحدہ فرستاد کہ درین جا بیاید۔ چون مال تمامی آمد از سبب بسیاری مال (ص ۳۳)

ب) در خاطر مخدوم و در خاطر ابوبکر و مخدوم محمد حسد وارد شد۔ در بعضی دفعہ جواب سوال میگردند۔ در آن انشای مخدوم ابوبکر بجوار رحمت حق پیوست۔ مخدوم صاحب ترتیب فاتحہ خوانی در پیش کردند و دستار پدر بہ مخدوم زاده سلطان ایوب قتال دادند۔ آنوقت ایشان در عمر ہفت سالہ بودند و مخدوم لعل حافظ و مخدوم یعقوب خورد تر بودند۔ ہر سہ برادران در خدمت جدہ پرورش یافتہ بودند کہ والدہ شریفہ ایشان پیش از مخدوم ابوبکر بجوار رحمت حق پیوستہ (پیوستہ) بودند۔

نقل است کہ حضرت مخدوم صاحب بمعہ (مع) قبایل در آنجا سکونت ورزیدند۔ از پس (پس) مالداری شیخ صدر الدین مخدوم ابوبکر در شہر مناوی کرد از روی حسد مبادا کہ کسی بہ مواشی شیخ صدر الدین برای چرانیدن محافظت کند چرا کہ قبضہ سرداری ایشان بسیار بود۔ گو سالہ ہا و گاؤ میشان خورد سالہ از سبب نابودن گاؤ بان در چریدن آوارہ گردیدند۔ حضرت مخدوم صاحب بہ سلطان ایوب قتال فرمودند کہ گو سالہ و گاؤ میشان مخدوم صدر الدین چرانیدہ بیار۔ سلطان ایوب قتال گو سالہ ہا برای چرانیدن گرفتہ رفت۔ در جنگل از تشنگی عاجز شد۔ آمدہ پیش جدہ صاحب عرض کرد کہ بر من تشنگی غالب می شود۔ فرمودند کہ امروز آب یک مرد بہ شما خواہد رسانید (ص ۱۳۵) خاطر جمع دارند۔ چون سلطان ایوب قتال روز دوم گو سالہ ہا برای چرانیدن روانہ گشت تشنگی غالب شد۔ وقت نیم روز زیر درخت خفتہ ماند کہ یک مرد بزرگ شکل نورانی پیدا شد۔ مخدوم زادہ را از خواب بیدار کرد و آب بنوشانید و گفت کہ جد خود را سلام من رسانی کہ خضر سلام دادہ بود۔ چون آن بزرگ روپوش شد مخدوم زادہ را از فرش تا عرش حجاب برخاست و در مستی در آمد و گو سالہ ہا را یکجا کردہ بصوب شہر عازم شد و ہرچہ بر آسمان معاینہ می کرد۔ تمامی علانیہ می گفت۔ حضرت مخدوم صاحب از کشف باطن دریافتہ (بہ) استقبال رفتہ و حالت سلطان ایوب در مستی دیدند۔ بزبان مبارک فرمودند بیا ولب مبارک نیز در دہان ایشان انداختہ و دستار مبارک خود بر سر سلطان ایوب نهادند۔ مخدوم زادہ از مستی و گشتن گفتگو خاموش ماند و در ہوش آمد و در شہر رسید۔ علی الصباح مخدوم صدر الدین را بمعہ (مع) والدہ و مال مواشی سمت صدر الدین پور مرخص فرمودند و مخدوم صاحب درماری رشید پور بمعہ (مع) ہر سہ نیرہ

تقل است کہ مخدوم صاحبؒ روز (و) شب در حجرہ ریاضت بحق مشغول بودند و سلطان ایوبؒ در خدمت حاضر بود تا دو سال متغنی گشت و فیضات از جد بزرگوار خود (ص ۳۵ ب) حاصل نمود و فتوحات غیبی و واردات لاریبی بی اندازه موصول شد و بہ مراتب قلیہ رسید و قطب المدار گردید۔ حضرت مخدوم صاحبؒ در یاد حق مشغول بودند کہ شخصی بر در حجرہ آمد و پرسید کہ عبدالرشیدؒ کجا است۔ سلطان ایوبؒ فرمود کہ اندرون حجرہ در عبادت حق مشغول اند۔ گفت این گل نیاز بدستش برسان۔ مخدوم زاده گل بدست مبارک مخدوم صاحبؒ داد۔ او شان بو میکرد و دو گانہ برای یگانہ ادا کردند و در آخر سجدہ جان بدو سپردند۔ مخدوم صاحبؒ را تکفین کردہ بر در حجرہ مدفون فرمودند در سنہ ستہ مائتہ و شصتین و تسعہ ستہ من ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔

سلطان ایوب قتل قدس اللہ سرہ

نقل است کہ چون مخدوم علیہ الرحمۃ بجوار رحمت حق پیوستہ سلطان ایوب قتل
 بد مصلائی جد ہشتہ مخدوم محمد و مخدوم حسن راہ حسد در پیش کردند۔ ہر چند سلطان
 ایوب قتل متابعت عم می فرمودند، فاما خراشیدگی دفع نہ گروید تا آنکہ در حین حیات
 مخدوم عبدالرشید با دختر سید ایوب ماجینی بی بی فاطمہ نام نامزوی سلطان ایوب شدہ بود۔
 ایشان تکلیف فرمودند کہ گذران شامبعہ (مع) عمان خود نمی شود اینجا تشریف فرمایند
 کہ خانہ واحد است (ص ۱۳۶) درین ضمن سلطان ایوب بخدمت مخدوم محمد و مخدوم
 حسن عرض کرد کہ درین تکلیف چه صلاح است؟ ایشان فرمودند رفتن شامبعہ
 ملاحظہ و مذاکرہ (مضائقہ) ندارد مختار اند۔ از گفتن ایشان مخدوم صاحب سلطان ایوب
 ہمید (نامید) گرویدہ سوار شد و بخدمت ایوب ماجینی رسید لیکن روز (و) شب در یاد
 حق متغرق بودند و حاجت خوردن و آشنا میدان نہ داشت۔ چون دو سال ہم برین متوال
 بگذشت شیخ سلیمان و شیخ عبدالعزیز فرزندان شیخ ایوب ماجینی حسد خوردند و گفتند کہ
 این شخص معطل و ناکارہ است، لازم کہ این را از نسبت جواب باید داد۔ سید ایوب
 فرمود کہ من قرار نسبت دادن بہ مخدوم عبدالرشید کرده بودم الحال چگونه جواب دہم؟
 کی آنکہ شرط شرافت تکلف نمایم، دوم آنکہ روز قیامت چه جواب دہم، اگر ناکارہ
 است ہم منظور دارم، عقد نکاح کردہ داد۔ ہر دو برادران غصہ کردند و گفتند کہ شامبعہ
 (مع) داماد علیحدہ باشید و میان علیحدہ گذران خواہیم کرد۔ سید ایوب قبول کرد۔ عاقبت
 زمین را قسمت کردند حصہ فرزندان بہ فرزندان داد و بر حصہ کشتار خود مخدوم
 سلطان ایوب قتل ظاہران مقرر شد۔ چون سلطان ایوب تمام روز بہ رب العالمین می
 مہر جانوران نماز بر خوشہ بائی افتادند و خوشہ ہای بسیار خالی (ص ۳۶ ب) کردند۔ یک
 روز شیخ سلیمان طرف کشتار زراعت پذیر گذر کرد۔ دید کہ پرنده ہای بسیار خوشہ ہای
 زراعت بخورند و سلطان ایوب در مراقبہ نشسته بہ یاد حق مشغول است۔ این حقیقت
 پیش پدر آمدہ ظاہر کرد۔ سید ایوب غصہ کردہ طرف کشتار خود رفتہ دید کہ مخدوم
 سلطان ایوب در مراقبہ نشسته و پرنده ہای بی شمار می خوردند۔ چون نزدیک رفت پانچہ
 (طمانچہ) سخت بر رخسارہ مبارک زد و گفت "مبارک زراعت مرا خراب ساختی"۔ سلطان

ایوبؑ فرمود: «چکنم؟» گفت: «ہا ہا کون ہم نمیتوانی؟» سلطان ایوب سے بارہا ہا ہا کر دے شنییم کہ بگشتن ہا اول بار محمد جانوران پریدند، بہ ہای دوم فصل ہم پرید و ہمای سوم نمن جنیدن گرفت۔ مرتب سید ایوب ماچینی دست خود بردہان مخدوم ایوبؑ نمود و فرمود کہ مرا نابود و ویران کردی۔ تمام عالم را نابود و ویران کن۔ ہر دو صاحبان از زراعت باز درخانہ آمدند۔ سلطان ایوب اہل پرودہ خود را گفت کہ اگر درخانہ پدر و مادر میمانی مختار واللہ بر خیز و ہمراہ من بیا کہ درین جا غضب الہی وارد است۔ بی بی مستورہ ہمراہ مخدوم سلطان ایوبؑ روانہ شدند۔ کسی تمکین ایشان نکرده، چون از شہر بیرون آمدند برادر زادہ کہ بمعہ (مع) طفلان بازی میکند (ی کرد) آن را برداشتہ بر کف نشاند برین امید کہ برای گرفتن پسر خود خواهد آمد۔ البتہ مرا باز گرفتہ بخانہ خواهد نشاند۔ اوشان تعاقب پسر ہم نکردند۔ چون دو کورہ از شہر بیرون رسیدند آواز سہمناک از پس آمد۔ (ص ۱۳۷) معلوم شد کہ بر شہر سید ایوب غضب الہی وارد گشت۔ مخدوم بمعہ (مع) قبایل در شہر معموری کہ در آنجا کدن و اترا (A) زمیندار بودند تشریف فرمودند و بخانہ کلال سکونت و رزیدند۔ آن کلال معتقد گشتہ خانہ حوالہ کرد کہ اینجا سکونت فرمایند۔

نقل است کہ سلطان ایوبؑ قتل اہل پرودہ را درخانہ کلال نشاندہ خود بخند مت شیخ صدر الدینؑ رفت ملاقات حاصل کرد۔ شیخ صدر الدینؑ فرمود کہ ای برادر زادہ قبایل خود را در اینجا بیارید آنجا سکونت شایان ندارد۔ مخدوم صاحبؑ فرمود کہ بالفعل در آنجا نشستہ ام مخدوم صدر الدینؑ ہم یک مادگاؤ (مادہ گاؤ) شیردار کہ نامش بہاگ میگفتند داد کہ شمارا بخشیدم و چیزی خرچ ہم عطا فرمود۔ مخدوم صاحبؑ باز آمد و آن مادہ گاؤ بہ کلال عطا کرد۔ کلال یک وقت شیر بہ مخدوم صاحبؑ می داد و دوم وقت خود متصرف می شد۔ مخدوم صاحبؑ شب (و) روز بر تالاب بہ خدا مشغول بود۔ اوتراوان حمر جوان در خانہ کلال آمدن و سخن ہای بی ادبی گفتن گرفتند۔ چون شب شد مخدوم صاحب بہ خانہ آمدند زنگہ کلال و اندرون اہل پرودہ کیفیت بی ادبی ایشان ظاہر ساختند۔ مخدوم صاحب علی الصبح بمعہ (مع) قبایل از آنجا کوچ کردہ بر تالاب آمدہ نشستہ و برای بنای (ص ۳۷ ب) خانہ تجویز فرمودند۔ بہ اوتراوان خبر رسید کہ فقیر بر تالاب خانہ بسازد۔

نامبرده با آمدہ بہ مخدوم صاحب مانع و مزاحم شدند کہ زمین ملک مایان است بجز قیمت خانہ را بنا نکنند۔ مخدوم صاحب فرمود کہ قیمت زمین چہ قدر است؟ او شان گفتند ہزار دینار۔ مخدوم صاحب فرمود ”بمویذ زیر مصلائی اجنبانہ شمرہ بگیرید“۔ اتر او ان مصلا برداشتہ تودہ زر سرخ یکجا دیدند۔ بغیر شمار بسیار برداشتہ و بخانہ بردند۔ چون گرہ کشاوند یک ہزار دینار و باقی کثوم و مار شدہ دیدند۔ ہراسیدند و تعجب کردند و گفتند کہ این طلسم نمودہ است، باید کہ مادہ گاؤ اش را کشتہ بخوریم۔ مادہ گاؤ را وزدی کردہ کشتہ تصرف خود کردند۔ کلال تاوقت آمدن تغافل ماند۔ چون نیامد جست و جو بسیار (کرد) نیافت۔ دا منگیر او تراوان گردید۔ کلال را ضرب شلاق نمود۔ وقت صبح زنگہ کلال و کلال ہر دو پیش مخدوم صاحب فریادی آمدند کہ مادہ گاؤ آنصاحب او تراوان کشتہ خورہ و مایان را ضرب شلاق (شلاق) کردہ، مخدوم صاحب او تیرا وان را طلیدہ مادہ گاؤ طلب کرد۔ منکر آمدند۔ مخدوم فرمود کہ قسم بکنید، بہ قسم راضی شدند۔ مخدوم فرمود کہ در آفتابہ آب است وضو بکنید۔ چون برای وضو طرف آفتابہ رفتہ دو مار سیاہ از آفتابہ بیرون آمدند۔ دعوی نمودند کہ فقیر ماران را در آفتابہ نشانہ مارا وضو کناند۔ مخدوم فرمود کہ این کذب (ص ۱۳۸) شما است کہ مار شدہ، بر تالاب بروید و وضو بکنید۔ چون طرف تالاب رفتہ دو شیر قصد خوردن ایشان کردند۔ باز آمدند کہ شیران را بر تالاب نشانہ ای و مایان را برای وضوی فرستی کہ بخورند۔ مخدوم صاحب فرمود کہ شما کاذب اید راست بگو۔ بید۔ گفتند کہ کلال بہ ما دعوی کذب می کند۔ مایان را خبر نیست۔ مخدوم صاحب را جذب آمد و گفت کہ اگر شما کشتہ و نخورہ مادہ گاؤ را می طلب۔ گفتند کہ۔ طلیدہ حضرت مخدوم باواز بلند فرمود۔ ”بہاگ، بہاگ، بہاگ“ از اندرون آن نابکاران او تراوان آواز مچو مادہ گاؤ بر آمد۔ مخدوم صاحب فرمود کہ بروید کہ بر شما غضب الہی وارد خواہد شد۔ چون شب شد بہ حکم رب العالمین بر آن موضع معموری از آسمان سنگ بارید، ویران و خراب شد مگر خانہ آن کلال بی تصدیح باقی ماند۔ علی الصباح کلال بمعہ (مع) قبائل برخاستہ بخدمت مخدوم صاحب آمد و آن معموری تودہ گل شد۔ مخدوم صاحب آنجا موضع آراستہ کردہ خضرپور نام نهادند و سکونت ورزیدند۔

نقل است کہ مخدوم صاحب در موضع خضرپور زراعت کشتاری کردند و ہر روز

بخدمت مخدوم صدر الدین عم خودی رفتی و ملاقات کوفه بازی آمدی۔ مخدوم صدر الدین یک گاؤ میش برای شیر خوردن داد۔ مخدوم فرمود کہ گاؤ میش (ص ۳۸ ب) حضور پھرائند، شیر گرفتہ خواہم رفت۔ ہم برین منوال اتفاق در میان خودی داشتہ۔ در آن اثناء فرزند محمد یوسف درخانہ مخدوم صاحب متولد شد۔ شیخ صدر الدین بمعہ (مع) قبائل درخانہ ایشان تشریف آورده و شادی کردند و آنچه زمین متصل خضرپور آباد غیر آباد بہ فرزند مخدوم صاحب بخشید و باز رفت کہ بعد از مخدوم یوسف مخدوم عالم تولد شد من بعد مخدوم رکن الدین و من بعد آن مخدوم ابوبکر و من بعد آن مخدوم بایزید بجز تولد شدن سوال جواب کرد و گفتگوی نمود کہ مرا درین جهان فای حکم ماندن نیست شادینہ شیرین بہ ارواح من پختہ آنچه اہل نسب باشد تصرف نمایند۔ دیگر اجنبی را خوردن ندهند والا آنکہ اجنبی خواہد خورد گنگ تواند شد، این گفتہ جان بحق تسلیم کرد۔

نقل است کہ یک روز نامہ از شیخ صدر الدین رسید مخدوم صاحب ہر چہ فرزند را علید کہ این کتابت را مطالعہ نمایند۔ ہر سہ فرزند جواب داد (ند) کہ آن صاحب میان را تفویض معلوم علم فرمود خواندن نہ آموختہ ایم، الحال چگونہ نامہ را خوانیم۔ مخدوم عالم خاموش استادہ بود۔ مخدوم صاحب فرمود کہ ای عالم تو کتابت می خوانی۔ مخدوم عالم عرض کرد کہ اگر آن صاحب از زبان مبارک بفرماید کتابت می خوانم۔ فرمودند بخوان۔ مخدوم عالم خواندن گرفت۔ مخدوم صاحب دعا کرد کہ ای عالم از اولاد شما ناخواندہ خواندہ خواہد شد و خواندہ صاحب کشف خواہد شد تا زندگانی فرمودہ مخدوم صاحب در محل اجابت آمد اولاد (ص ۱۳۹) مخدوم عالم تمامی ناخواندہ خواندہ می شود۔

نقل است کہ حضرت مخدوم سلطان ایوب قبال در وجد و کشف و کرامات طی الکان (۸۲) بود۔ یک روز در حجرہ نشستہ بود کہ خط شیخ صدر الدین رسید بدین مضمون کہ خود را در آنجا رسانند۔ مخدوم صاحب بجز خواندن مکتوب برخاست و سوار شد۔ بخدمت مخدوم صدر الدین ملازمت حاصل کردند و با یک دیگر مصافحہ نمودند۔ مخدوم صدر الدین فرمودند میخواہم کہ جہد شیخ محمود برادر شایر خانقاہ مطہرہ مقدسہ حضرت ابوی صاحب تراش نمایم و شما بمعہ (مع) قبائل تیار شوید۔ مخدوم فرمود کہ حضرت سلامت عمو

صاحب مخدوم حسن بمعہ (مع) آن صاحب مخالفت میدارند، در رفتن آنجا خوبی منظور نخواهد آمد، بہتر این است کہ درین جا جسد تراشی فرمایند۔ مخدوم صدرالدین را این صلاح پسندیدہ آمد۔ فرمودند کہ بہ حسب صلاح ایشان اکتفا نمودیم۔ در روز جمعہ ہفتم ماہ شعبان میعاد مقرر است شان بمعہ (مع) قبائل تشریف آرید۔ ایشان قبول کردند و رخصت طلب کردند۔ مخدوم صدرالدین فرمود کہ گاؤ میشان می آید، شام شیر نوشیدہ بروید۔ اندکی توقف کردند۔ باز رخصت طلبیدند۔ باز مخدوم تاکید کرد کہ شیر نوشیدہ بروند۔ چون دیر گذشت مخدوم سلطان ایوب فرمود کہ عموصاحب گاؤ میش را شیر خورده کہ تا حال نیامد۔ شیخ صدرالدین فرمود کہ بدو دعا کن گاؤ میش می آید۔ در آن اثنا نگاہبان خبر گاؤ میش آورد کہ گاؤ میش را شیر (ص ۳۹ ب) زده است۔ مخدوم صاحب در غصہ آمدند فرمودند کہ ای ایوب جوان مرگ بدو دعا کردی و گاؤ میش از شیر خورانییدی۔ مخدوم سلطان ایوب فرمود ای عموصاحب اول این بندہ وعدہ آنصاحب غصہ کردہ طرف خانہ تشریف فرمودند با جذبات الہی (کذا) بہ جوار رحمت حق پیوستہ۔ روز واقعہ مخدوم سلطان ایوب قتل از وارفتاہ دار البقاعہ سبع ماہتہ وستہ و ستین از ہجرت الہی صلعم بود۔

نقل است کہ در خانہ مخدوم صدرالدین سہ فرزند دیگر متولد شدند، مخدوم زین الدین و مخدوم رکن الدین و مخدوم عبداللہ۔ کہ خدائی فرزندان کردند و ملک الماک و مال مواشی فرزندان را قسمت فرمودہ دادند۔ وقت صبح نماز خواندہ بعد واقعہ سلطان ایوب قتل چہار پاس واقعہ مخدوم صدرالدین روی دادند سبع ماہتہ وستہ و ستین سنہ از ہجرت الہی صلعم۔

نقل است در تذکرۃ الاولیاء (۸۳-۸۴) بطریق مختصر، اولاد حضرت مخدوم احمد غوث بن شیخ ابوبکر صفت فرزنداند۔ اول فرزند مخدوم عبدالرشید حقانی صاحب اولاد بایرکات کہ مشہورانہ با کمالات، دوم فرزند مخدوم عبدالرحمن (ص ۱۴۰) لاولد، سوم فرزند مخدوم طاہر لاولد، فرزند چہارم مخدوم موسی نواب لاولد، پنجم داول دریا لاولد، ششم مخدوم سادھن لاولد، ہفتم مخدوم ملان فقیر علی کہ صاحب اولاد (بود) چنانچہ شاہ یوسف کہ مزار مبارک ایشان طرف کھر کھرائی (۸۳) است آنہم از اولاد ایشان است۔

ذکر اولاد مخدوم عبدالرشید حقانی

کہ فرزند ایشان چاراند۔ اول مخدوم ابوبکر دوم مخدوم محمد از مشیرہ مخدوم بماء الدین کہ اسم ایشان بی بی کمال خاتون است سوم فرزند مخدوم حسن نواز بادشاہ مخلف (تخلق) دعلوی نام والدہ شریفہ ایشان بیگم معظمہ خاتون۔ چہارم فرزند مخدوم صدرالدین نواز رائی الوٹا کچی پوسال نام والدہ شریفہ ایشان بی بی راج کتول۔

ذکر اولاد مخدوم ابوبکر کہ فرزند ایشان چاراند: اول سلطان ایوب قتل صاحب اولاد کہ اشتمار دارند۔ دوم مخدوم لعل حافظ لاولد سوم مخدوم محمد یعقوب چہارم مخدوم محمد۔

ذکر اولاد مخدوم سلطان ایوب قتل کہ فرزند ایشان پنج اند۔ اول مخدوم یوسف دوم مخدوم عالم سوم مخدوم ابوبکر چہارم مخدوم رکن الدین پنجم بایزید۔

ذکر اولاد مخدوم یوسف کہ ایشان دو فرزند دارند اول مخدوم مبارک دوم مخدوم موسیٰ۔

ذکر اولاد مخدوم عالم کہ ایشان دو فرزند دارند اول مخدوم شاہ درویش (ص ۳۰ ب) دوم: شیخ احمد لاولد

ذکر اولاد مخدوم ابوبکر کہ ایشان یک فرزند دارند شیخ معین الدین۔

ذکر اولاد مخدوم رکن الدین کہ ایشان چہار فرزند دارند اول مخدوم کرمت اللہ دوم رحمت اللہ سوم عبداللہ چہارم عبدالعزیز۔

ذکر اولاد مخدوم محمد فرزند دوم مخدوم عبدالرشید حقانی کہ ایشان چہار فرزند دارند اول شیخ بدہ دوم کرم اللہ سوم سراج الدین چہارم مخدوم قاسم۔

ذکر اولاد مخدوم حسن کہ ایشان چہار فرزند دارند اول مخدوم نھرا اللہ دوم محمد داؤد سوم مخدوم عیسیٰ چہارم مخدوم موسیٰ۔

ذکر اولاد صدر الدین کہ ایشان چہار فرزند دارند اول مخدوم محمد دوم مخدوم

زین الدین، سوم مخدوم رکن الدین، چہارم مخدوم عبداللہ۔

ذکر اولاد مخدوم محمد کہ ایشان یک فرزند دارند شیخ ابن۔

ذکر اولاد مخدوم زین الدین کہ ایشان سہ فرزند دارند: اول شیخ شمس الدین،
دوم شیخ ابواسحاق، سوم شیخ برہان الدین۔

ذکر اولاد ابواسحاق یک فرزند راجو۔

ذکر اولاد شیخ شمس الدین یک فرزند شیخ تاج الدین۔

تمت تمام شد بروز پنج شنبہ بوقت ظہر تاریخ ۲۱ شہر محرم الحرام ۱۳۶۷ ہجرت النبوی
صلعم بقلم فقیر محمد بخش ولد میاں کالو قوم کلال سکنہ چاہ مقیم والا موضع قصبہ مڑلان
علاقہ تحصیل و ضلع ملتان بہ پاس خاطر جناب محمد مسلم شاہ از اولاد حضرت مخدوم
عبدالرشید حقانی علیہ الرحمۃ والتعزیران ۳۔

اَزْدَوْتِمِه

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

(ص ۱۱)

ملفوظ حضرت مخدوم عبدالرشید حقانی قدس سرہ، از تصنیف شیخ شرف
الدین قریشی

ابیات

اے کہ تجھے جنن پر اختیار ہے۔
تو ہر بلند و پست شے کا خالق ہے۔
بلاشبہ تمام مخلوقات بلا استثنا تیری صفات کی مظہر ہیں۔
تو نے ان سب کے درمیان سرور کائنات کو ممتاز کیا۔
آپ کو نین کی زینت اور کائنات کا باعث آفرینش ہیں۔
آپ حشر میں امت کے شفیع ہیں۔

ظہیر فیض آثار، فضائل دین، علمائے امین اور عوام الناس پر یہ امر پوشیدہ نہ

رہے کہ یہ ظہیر تعمیر نسیم و نجف شرف الدین جو غفران پناہ، مقرب خدا، حضرت
مخدوم عبدالرشید قدس سرہ کی اولاد سے اور دارالسلطنت لاہور کی فیصل کے اندر
موچی دروازہ کے متصل محلہ شیخ بڑھن ماچینی کا رہنے والا ہے ایک دن قاضی کامل شیخ
عبدالغفور مرحوم و مغفور (ص ۱۱) کے کتب خانے میں انہی کے اہل محلہ شیخ وجیر
الدین مدرس سے ملاقات کے لیے گیا تھا۔ شیخ مذکور علوم قرآن و حدیث و شریعت میں
بے مثل اور لامتناہی تھے۔ وہی اہل سلف کے ملفوظات کے چند نسخے میرے مطالعے
میں آئے جن میں حضرت مخدوم عبدالرشید کے کشف و کرامات اور احوال خدمات بیان
کئے گئے تھے۔ جی چاہا کہ اپنے بزرگ آباؤ اجداد کے حالات عرب سے نکلنے سے لے کر
خوارزم (۱) و غزنی اور ملتان میں داخل و مقیم ہونے تک ان ملفوظات میں سے منتخب کر
کے یکجا کروں تاکہ ان کے اس ملک میں رہنے والے اخلاف کے لئے یادگار رہے۔
ان ملفوظات کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

اول : ملفوظ شیخ الاسلام والدین مرشد الطالبین بالیقین شیخ شمس الدین (۲) جو دو حصوں پر مشتمل ہے، اول عرب سے نکلتا اور شہر خوارزم میں وارد ہوتا، دوم ملک ہند و ولایت راجہ دیپال (۳) و خٹال و تنبورہ کی فتح کے احوال میں۔

دوم : ہمارے مشائخ کے احوال جو قطب الاقطاب موحّد لاٹانی شیخ فرید الدین گنج شکر (۴) کے ملفوظات سے منقول ہیں۔

سوم : ملفوظ سیر الابرار (ص ۱۲) ربانی اسرار حضرت سید جلال الدین بخاری " جس میں حضرت عبدالرشید کے خصال، کرامات، صحبتوں، مجلسوں اور زندگی کے بارے میں تحریر ہے کہ ہمارے شیخ صاحب وجد و فتانی اللہ اور کماحقہ، تارک الدنیا تھے اتنے کہ تحت اثری سے لیکر عرش بریں تک کسی شے سے سروکار نہ تھا اور نفسانی خواہشات اور دنیاوی خرخشوں سے پاک تھے البتہ وہ شیخ الاسلام والدین حضرت بہاء الدین (۶) جیسے بزرگان کرام کی طرح عالم صحو میں آجاتے تھے۔

چارم : ملفوظ غوث الملک، عمدة الواصلین حضرت مخدوم سلطان ایوب قتال قریشی اس کتاب کا سن تصنیف سال ۸۲۶ ہجرت نبی آخر الزمان ہے۔ اس میں حضرت آدم صلی اللہ علیہ سے لیکر نبی آخر الزمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام بزرگان سلف کے احوال یکجا کر دیئے گئے ہیں اور ہمارے بزرگ آباؤ اجداد کے کوائف تحریر ہیں۔ اس کا نام "جامع الکرامات ملفوظ المنتہی" رکھا گیا تاکہ حضرت کی اولاد اور معتقد مریدان آپ کے احوال و کوائف سے مطلع ہو کر انہیں بطور یادگار رکھیں۔

چونکہ حضرت مخدوم ابتداء ہی سے حیرت و تجلیات الہی (ص ۲ ب) میں غرق اور فتانی اللہ تھے اور انہیں اس مادی دنیا کے احوال کی کوئی خبر نہ ہوتی تھی سوائے اس وقت کے جب ہم مشرب بزرگ آپ کی خدمت میں تشریف لاتے تھے اس موقع پر

آپ حسب ضرورت وحدانیت محمدی کے پردے سے سر باہر نکالتے اور تھوڑی بہت گفتگو فرماتے ورنہ انہیں سالہا سال کھانے پینے اور لباس کی حاجت نہ ہوتی تھی۔ خادمان وہ تمام امور جو اس وقت کیلئے ملتوی رکھے گئے ہوتے آپ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔

ملفوظ حضرت شیخ المشائخین مرشد الطالین شیخ غس الدین میں یوں تحریر ہے کہ عرب کے ایک رئیس امیر تاج الدین بیت اللہ شریف میں سکونت رکھتے تھے۔ جب مکہ معظمہ کی حکومت مروان ہمارے قبضہ میں آگئی اور مکہ معظمہ اور نواح عرب کے تمام باشندے خوارج کا مذہب (نئی حکومت) ماننے پر مجبور ہوئے تو امیر تاج الدین کو بھی بیعت کیلئے کہا گیا لیکن انہوں نے قبول نہ کیا۔ مروانیوں سے آپ کو دلی مخالفت ہو گئی۔ اس سبب سے آپ نے اپنے وطن مالوف کو خیر باد کہا اور اپنے لشکر سمیت خوارزم میں آگئے۔ کچھ وقت وہاں گزارا۔ آپ تمام قلعہ خوارزم میں آنے جانے لگے اور طغون بیگ قلعہ دار خوارزم سے پر خلوص دوستی ہو گئی۔ کسی مفید نے مذکورہ قلعہ دار کے دل میں یہ بدگمانی پیدا کر دی (ص ۱۳) کہ امیر تاج الدین قلعے پر قبضہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس پر قلعہ دار آپ سے بدظن ہو گیا اور آپ کو قلعے میں آنے سے روک دیا گیا۔ اس وجہ سے ناراض ہو کر آپ نے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ ایک سال کی لڑائی کے بعد قلعہ فتح ہوا اور قلعہ دار قیدی بنا لیا گیا۔ آپ نے قلعے میں رہائش کے لئے مکانات تعمیر کروائے۔

شیخ برہان الملک والدین (۹) کے ملفوظات میں بیان ہوا ہے کہ امیر تاج الدین نے دس سال قلعہ خوارزم میں کامیابی سے حکومت کی اور واصل تہی ہوئے۔ شیخ عبد اللہ حسین آپ کے بڑے صاحبزادے جو علوم ظاہری و باطنی میں ممتاز اور بڑے عبادت گزار تھے آپ کے جانشین ہوئے۔ انہوں نے چالیس سال تک حکومت کی۔ دوسرے بیٹے شیخ غس الدین نے جو علوم لدنی میں کائل و بمثال تھے بے شمار لوگوں کو علوم قرآن و حدیث سے مستفیض کیا اور علم باطن سے تین سو مرید بنائے چنانچہ ان کے

حالات اس لغوظ میں طبعاً درج ہیں ان کی تفصیل کتب کے آخر میں معلوم ہوگی۔ اس کے بعد شیخ المشائخ اس دارفا سے دار بقا کی طرف رحلت فرما گئے۔ آپ کا مزار پر انوار خوارزم کے نواح میں ہے۔

نقل ہے کہ شیخ عبداللہ کے بعد آپ کے فرزند ارجمند حسین خرقہ و سجادہ سے مشرف ہوئے۔ آپ بے حد حساب مالدار تھے دنیاوی مال و دولت از قسم نقد و جنس (ص ۳ ب) سونا اور موٹی اس قدر زیادہ کہ ان کا شمار نہیں تھا۔ آپ کے چچا شیخ شمس الدین ولی کامل اور چودہ علوم کے ماہر اور قہر تھے۔ شیخ حسین چاہتے تھے کہ اپنے فیاض چچا کے مرید ہو جائیں اور علم باطن کے حصول کے لئے ان کی بیعت کریں چنانچہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آداب بجالائے اور منت و زاری سے بے حد اصرار کیا۔ شیخ نے فرمایا کہ دو دشمن مل کر نہیں بیٹھ سکتے اور دو نکواریں ایک میان میں نہیں سا سکتیں۔ حکم دیا کہ اے فرزند! اگر تو تمام دنیاوی مال و متاع اللہ کی راہ میں فقراء کے حوالے کر دے اور اپنا دامن جھاڑ لے تو جو کچھ تیرے نصیب میں ہے مل جائے گا۔ شیخ نے اپنے بزرگ چچا کے حکم کی تعمیل کی۔ فوراً تمام خزانے نقد ساز و سامان، مال موٹی اور گہر کا تمام اثاثہ اللہ کے نام پر درویشوں، مسکینوں اور مستحقین پر صرف کر دیا۔ عام اعلان کر دیا اور صرف ایک کلاہ، گدڑی اور پاجامہ اپنے پاس رکھا۔ شیخ المشائخ کے مریدوں اور خادموں میں شامل ہو گئے۔ کچھ مدت خوارزم میں رہے۔ بعد میں سلطان محمود غزنوی کی پرزور التجا پر غزنی تشریف لے گئے۔ وہاں شہر کی جامع مسجد کے ایک حجرے میں قیام فرمایا۔ (ص ۱۴)

آپ دن رات حق تبارک تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے اور توکل علی اللہ گذران فرماتے تھے۔ تین سال تک سلطان محمود کی طرف کوئی التفات نہ کیا۔ اس عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سلطان محمود حاکم غزنی کے دل میں آپ کی محبت و ارادت نے جوش مارا۔ بڑے عجز و انکسار سے حاضر ہو کر قدم بوسی کی۔ شیخ المشائخ و قدوة السالکین شیخ شمس الدین نے سلطان محمود غزنوی کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے سرفراز کیا چنانچہ شہزادہ قرآن و حدیث اور علوم شرعی میں علامتہ الدھر ہو گیا۔ پھر علم

لدنی کی تعلیم فرمائی۔ تھوڑی مدت میں وہ اس قابل ہو گیا کہ طبقات سلوی کو روشن اور اسرار اراضی کو کشف کر سکے۔ اس نے شیخ کی خدمت میں عرض کی کہ مجھے محبوب خدا حضرت خاتم التسن مسلم کے جمال باکمال کا دیدار نصیب ہو چنانچہ آپ کی باطنی توجہ کی بدولت وہ حضورؐ کے بے مثل حسن کے مشاہدے سے مستفیض ہوا۔

بیان کرتے ہیں کہ سلطان محمود غزنوی ہر شب جناب ختمی مرتبت علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے اور بوسیلہ شیخ المشرح اس سلسلے میں حضورؐ کی بارگاہ سے فتوحات اور انوار حاصل کرتے تھے۔ ایک رات سلطان محمود بارگاہ نبوتؐ میں حاضر تھے کہ حکم ہوا ولایت ہند کفار سے بھری پڑی ہے (ص ۲۲ ب) دیاں جا کر انہیں حلقہ بگوش اسلام کرو۔ سلطان محمود نے دل و جان سے سر تسلیم خم کیا۔ بحکم خدا حضرت شیخ سے خلعت عطا ہوئی۔ بادشاہ اس تختے سے ممتاز و سرفراز ہوئے۔ صبح سویرے تخت شہی پر جلوہ افروز ہو کر لشکر کی حاضری لی اور تمام دنیائے اسلام میں یہ فتویٰ کرا دی کہ ہر کلمہ گو مسلمان یہ جان لے کہ حضورؐ نے طلب فرمایا ہے پس ہندوستان پر چڑھائی کرنے میں معاون ہو۔

جملہ مسلمانان و مومنین تیار ہو گئے۔ جب یہ اعلان جملہ شیخ المشرح کے سمع مبارک تک پہنچا آپ اپنے خدام سمیت جملہ کے لیے مستعد ہو گئے۔ جب سلطان محمود کے فتح مند لشکر نے غزنی سے ایک منزل کے فاصلے پر خیمے لگائے تو سلطان اجازت لینے کے لئے واپس غزنی میں شیخ المشرح کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ آپ مع خدام سر ہند کے لئے لشکر گاہ کی طرف جانے کو تیار ہر تیار ہیں۔ سلطان محمود نے بڑے عجز اور زاری سے عرض کیا کہ ہند کی یہ مہم دشوار اور پر خطر ہے۔ جب یہ ادنیٰ غلام اوہر جا رہا ہے تو حضور کے خاندان زحمت نہ فرمائیں۔

شیخ الاسلام نے فرمایا کہ اب جبکہ جملہ عام کا اعلان ہو چکا ہے ایک مسلمان کے لئے یہ حکم سن کر فرض سے پہلو تھی کرنا نہایت مشکل ہے (ص ۱۵)۔ سلطان محمود

نے بہت اصرار کیا شیخ المشائخ نے قبول نہ فرمایا۔ آخر سلطان نے عرض کیا کہ لاکر حضرت خاتم التسنین صلعم کی امداد بابرکات اور آپ کے قدم رنجہ فرمانے سے ہندوستان فتح ہو گیا تو میں اس کی حکومت شیخ کے خادموں کے سپرد کروں گا۔

نقل ہے کہ جب بادشاہ کے حکم سے سلطنت غزنویہ میں ہر طرف اعلان جہاد شائع ہوا تو تمام مسلمان ہر طرف اور ہر علاقے سے حسب استطاعت اسلحہ سمیت شہر غزنی میں بارگاہ شامی میں حاضر ہو گئے۔ ایک ہفتہ کے بعد سلطان کے حکم پر نقیبوں نے یہ مناوی کر دی کہ تمام منتخب امراء اپنی افواج سمیت سوار ہو کر ملاحظے کے لیے سلطان کے سامنے گزریں۔ گنتی ہوئی تو کل لشکر کا شمار ایک لاکھ ستر ہزار ہوا۔ لشکر اسلام سات فرسنگ کے پھیلاؤ میں کوچ اور مقام کرتا تھا۔ جب سلطان محمود کامل اور زابل (۱۰) سے سوار ہو کر ملک ہند کی طرف روانہ ہوئے تو وہاں سے راجہ تنبورہ اور راجہ دیپال کے ملک تک ڈیڑھ سو فرسنگ کا فاصلہ تھا۔ آپ منزلیں مارتے جا رہے تھے (ص ۵ ب)۔ جب تمام لشکر اسلام نے کوستان بہودی (۱۱) میں پہنچ کر ایک تالاب کے کنارے ڈیرہ لگایا تو آدمی رات کے وقت آسمان سے آگ کی بارش ہونے لگی۔ تمام لشکر سے شور و غونما بلند ہوا۔ حضرت شیخ المشائخ کا خیمہ سلطان محمود کے خیمے کے قریب ہی تھا۔ آپ نے یہ حالت دیکھی تو آپ اللہ تعالیٰ کی ثناء و دعا اور خاتم الانبیاء صلعم پر درود و سلام بھیجنے میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی دعا اور الحاح و زاری سے وہ مہیب منظر جو شیاطین کی شرارت تھی دفع دور ہو گیا۔ وہاں سے کوچ کر کے لشکر اسلام کوہ جدی (۱۳) پر معدن الجد (۱۴) کی حد میں داخل ہوا۔ اس خوش بخت علاقے کو حکم اسلام کے تابع کرنے کے بعد ایمان بخشا۔ اس کے بعد لشکر نے ہندوستان کی طرف رخ کیا۔ راستے میں ایک ایسے وسیع علاقے (۱۵) سے گزر ہوا کہ اس میں کہیں پانی نہ تھا۔ سات دن تک کہیں پانی دستیاب نہ ہوا۔ ہر شخص عاجز آ گیا آخر سلطان محمود غزنوی نے شیخ الاسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی مشکل عرض کی۔ شیخ نے بارگاہ الہی میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے۔ اس کار ساز کے حکم سے اتنی بارش ہوئی کہ تمام لشکر اسلام سیراب ہو گیا۔

نقل ہے کہ ایک سال کے بعد یہ مبارک لشکر کوٹ کروڑ (۱۶) میں وارد ہوا (ص) (۱۶) جو راجہ دہپال (۱۷) کی عملداری میں تھا اور قلعے کے باہر ڈیرے لگا دیئے۔ راجہ دہپال کی طرف سے ہریپال نامی شخص قلعہ دار تھا جو فوج لیے اس محکم قلعے میں جما بیٹھا تھا۔ وہ جنگ پر آمادہ ہوا لیکن دو روز مقابلہ کرنے کے بعد راہ فرار اختیار کر گیا۔ ہرکاروں کے ذریعے اس کے بھاگ نکلنے کی خبر راجہ دہپال تک پہنچی۔ لشکر سوار ہو کر قلعے میں داخل ہوا اور دین اسلام کے ورود مسعود کا اعلان کر دیا۔ حضرت مخدوم نے بت خانے ڈھا دیئے اور مساجد تعمیر کرائیں۔ اپنے ایک پرانے اور معتبر خادم عبداللہ ابن سعید کو کوٹ کروڑ کا قلعہ دار مقرر کیا اور خود راجہ دہپال کے علاقے کی طرف روانہ ہوئے۔ سیلاب کا موسم تھا معلوم ہوا کہ کشتیوں کے بغیر عبور کرنا مشکل ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے بھانجے شاہ شہاب الدین غوری (۱۸) کو حکم دیا کہ وہ اپنی نگرانی میں کشتیوں کا کارخانہ لگوائے۔ اس نے آپ کے فرمان کے بموجب کشتیاں تیار کرا دیں۔ سلطان محمود غزنوی نے شیخ الملت والدین (شیخ حسین) سے گزارش کی کہ آپ یہاں کے تمام قبائل کے درمیان مضبوطی سے قیام فرمائیں اور ہم راجہ تنبورہ کی طرف جو راجہ دہپال کا والد ہے روانہ ہوتے ہیں۔ قصہ مختصر شیخ حسین دس ہزار سواروں کے ساتھ کوٹ کروڑ میں علاقے کے نظم و نسق اور قبائل کے انتظام کے لیے مقرر کئے گئے (ص ۶ ب) اور باقی تمام لشکر سلطان محمود کی معیت میں ایک نیک ساعت میں کشتیوں پر سوار ہو کر راجہ تنبورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ آٹھویں روز نواح تلہ (۱۹) میں پہنچے جو ایک بلند ٹیلے (۲۰) پر ہونے کی وجہ سے سیلاب سے محفوظ تھا۔ دو روز آرام کیا بعد میں کشتیوں کے ذریعے دس دن کا سفر کر کے ابو سعید ماہینی کے ٹیلے پر پہنچے جو سرا سر ویرانہ تھا۔

قلعے سے پہلے کچھ خشک علاقہ تھا وہاں قیام کیا اور راجہ تنبورہ کی استعداد جنگ معلوم کرنے کے لئے ہرکارے بھیجے۔ معلوم ہوا کہ راجہ تنبورہ اس اثناء میں جنم واصل ہو چکا ہے اور راجہ دہپال اس کا جانشین ہوا ہے۔ جب اس نے لشکر اسلام کی آمد کی خبر سنی تو کہا کہ یہ ضرور کسی بڑے ارادے سے یہاں آئے ہیں۔ اس نے ہر

طرف سے بے حد حساب لشکر جمع کیا اور لشکر اسلام سے مقابلہ کا ارادہ کیا۔ ہرپال نے جو کوٹ کروڑ کا قلعہ دار تھا عرض کیا کہ ترکوں (مسلمانوں) کا لشکر تعداد میں بہت کم ہے آپ کا بغض نفس اس کے مقابلے کے لیے لکنا آپ کی شان کے شایان نہیں ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ پہلے ہرکارے بھیج کر انکی حالت واستعداد کا پورا پتہ لگایا جائے اس کے بعد آپ اپنے اس کترین غلام کو حکم دیں کہ وہ ان مٹھی بھرا جنیوں کو جنگجو گھوڑوں کے سموں تلے روند ڈالے۔ قلعہ دار کے مشورے کے مطابق ہرکارے مقرر کئے گئے جو حال احوال معلوم کرنے کے لئے لشکر اسلام میں داخل ہو گئے (ص ۷) وہ یہ دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہو رہے تھے کہ مسلمانوں کا لشکر تعداد میں راجہ کے لشکر کی نسبت بہت کم ہے تاہم انہوں نے سوچا کہ ان کے عادات و اطوار کا پتہ چلانا چاہیے۔ جب نماز ظہر کا وقت آیا تمام مسلمان اذان کے بعد باجماعت نماز میں مشغول ہوئے۔ وہ صفیں باندھے امام کی اقتداء میں قیام کے وقت قیام، رکوع کے وقت کے رکوع، سجدے کے وقت سجدہ اور قعدے کے وقت قعدہ کرتے۔ مسلمان اکٹھے ہو کر اذان کی طرف متوجہ ہوتے اور مسواک اور وضو کرتے تھے۔ جاہلوں سے مسلمانوں کے یہ احوال دیکھ کر بڑے حیران اور سراسیمہ ہوئے۔ ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ لشکر ہے تو تھوڑا لیکن ان میں اتفاق بہت ہے کہ ہزاروں ایک امام کی متابعت کرتے ہیں اور ایک آواز پر سب متوجہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے چند مسلمانوں سے پوچھا کہ یہ تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا کہ کل ہم راجہ دہپال کے ملک کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد وہاں کے آدمیوں کو پکڑ کر کھا جائیں گے کیونکہ ہم کئی دن کے بھوکے ہیں۔ انہوں نے جب یہ بات سنی تو اور زیادہ ڈرتے۔ واپس جا کر راجہ کو تمام حالات بالتفصیل بتائے اور عرض کیا کہ مسلمانوں کا لشکر اگرچہ تعداد میں کم ہے لیکن جو بات اس میں ہے وہ راجہ کے لشکر میں نہیں۔ ان کے لشکر میں جس قدر اتفاق ہے وہ ہمارے ہاں نہیں ہے۔ (ص ۷ ب) دوسرے انہیں طعام کی ضرورت نہیں۔ وہ اس ملک کے آدمیوں کو کھانے پر مستعد ہیں اور دانت تیز کر رہے ہیں۔ راجہ دہپال نے یہ سن کر خلوت میں ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ یہ صلاح ٹھہری کہ ان خونخوار درندوں کا مقابلہ کرنا ٹھیک نہیں اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہئے۔

ذکر دوم: شیخ شمس الدین کے خطوط میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کافر نے مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ تمام رعایا سمیت دریا (۲۱) عبور کر کے قلعہ جیسل گڑھ کو ٹھکانا بنانا چاہئے اور وہاں سے کشتیوں میں سوار ہو کر ترکوں (یعنی مسلمانوں) کے لشکر پر شب خون مارنا چاہئے سب کو یہ صلاح پسند آئی۔ چنانچہ راجہ دیپال نے تمام مال و اسباب، لشکر اور رعایا سمیت قلعہ دیپال گڑھ چھوڑ کر (۲۲) جیسل گڑھ میں پناہ لی۔

مسلمان مجبوروں نے یہ خوشخبری سلطان محمود غزنوی کے سمع مبارک تک پہنچائی۔ اسلامی لشکر فوراً حملہ کر کے راجہ دیپال کے قلعہ میں داخل ہو گیا۔ اسلام کی منادی کر دی اور بت خانے اور کفر کے دھرمشالے (۲۳) تباہ کر کے مساجد تعمیر کیں۔ ایک سال وہاں سکونت کر کے حکومت کا بندوبست کیا اور اپنے بھانجے شاہ شہاب الدین غوری کو بہت سا لشکر دے کر اس بد بخت کافر کے تعاقب پر مقرر کیا اور حکم دیا کہ دریا عبور کر کے دوسرے کنارے پر لشکر کفار کا مقابلہ کیا جائے۔ شاہاب الدین غوری نے حکم کے مطابق تعاقب کرتے ہوئے دریا عبور کیا۔ (ص ۱۸) لشکر کے تین حصے کئے۔ ایک حصے کو بائیں بازو پر، ایک حصے کو دائیں بازو پر اور ایک کو گھات میں رکھا تاکہ جب حملہ ہو تو وہ حصے جو دائیں بائیں رکھے ہیں دشمن کو گھیر لیں۔ جب راجہ دیپال گڑھ اور راجہ جیسل گڑھ کو یہ خبر ملی کہ مسلمانوں کے لشکر نے دریا عبور کر لیا ہے انہوں نے سو کشتیوں کو فوج سے بھر کر رات کے وقت لشکر اسلام پر شب خون مارنے کے لیے روانہ کیا۔ کافروں نے دریا عبور کر کے تلواریں سونت لیں اور حملہ کر دیا۔ شدید جنگ ہوئی چنانچہ بے شمار کافر جہنم واصل اور بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ لشکر اسلام کے دونوں حصوں نے لشکر کفار کا محاصرہ کر لیا اور انہیں کشتیوں سمیت پکڑ لیا۔ سلطان شہاب الدین نے ان کافر قیدیوں کی موجودگی میں مسلمان سپاہیوں کو حکم دیا کہ ہر روز سو کافروں کو ذبح کر کے باورچیوں کے حوالے کر دیں تاکہ وہ جلد انہیں بھون کر لائیں۔ چند قیدیوں کو تو برائے قتل امیروں کے حوالے کر دیا اور چند ایک کو کسی بھلے چھوڑ دیا۔ رہائی پانے والوں نے دونوں راجاؤں کو مسلمانوں کی مروت غوری کی داستان سنائی جسے سن وہ از حد خوفزدہ ہو گئے۔ ادھر سلطان محمود غزنوی اور شیخ الشیخ دیپال گڑھ کا انتظام درست کر کے (ص ۸ ب) سلطان شہاب الدین غوری

کے لشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بادشاہ کے لشکر نے کوچ کیا تو ساتھ ہی چند کافروں کو قید سے رہائی دے کر بھگا دیا۔ انہوں نے بھی راجاؤں کے سامنے یہی بیان کیا کہ واقعی یہ لوگ مردم خور ہیں اور سوائے ہندوستانی انسانوں کے گوشت کے اور کچھ نہیں کھاتے۔ پہلا لشکر تو اس علاقے کے ایک دو ہزار آدمی روزانہ کھاتا تھا اب کہ ترکوں کے دو بڑے لشکر جمع ہو گئے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہر روز تین چار ہزار آدمیوں کی ضرورت پڑے گی۔ امکان غالب ہے کہ وہ آج یا کل کشتیوں کے ذریعے دریا عبور کر کے اس علاقے پر حملہ کر دیں گے جو کچھ کرنا ہوا بھی کر لیں۔ یہ سن کر بد بخت کافروں کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے سرکردہ لوگوں سے مشاورت کی جنہوں نے یہ صلاح دی کہ اس ملک کو چھوڑے بغیر چارہ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے یہ اعلان کرا دیا کہ سب اس ملک کو چھوڑ کر جیسلمیر (۲۳) کی طرف روانہ ہو جائیں جو شخص یہاں رہ جائے گا وہ ترکوں کا لقمہ بن جائے گا۔ سب لوگ دونوں راجاؤں سمیت جیسلمیر کی طرف چل پڑے۔ مخبروں نے یہ خبر لشکر اسلام تک پہنچا دی جنہوں نے یہ خوشخبری سن کر (ص ۱۹) خوشی کے شادیاں بجا دیں اور دریا عبور کر کے قلعہ جیسل گڑھ میں داخل ہو گئے۔ قلعے کے تمام دھرم شالے، بت خانے اور کفر کی تمام نشانیاں توڑ ڈالیں۔ جنگجویان اسلام کو بے شمار مال غنیمت ہاتھ لگا۔ انہوں نے وہاں مسجدیں تعمیر کیں اور حکومت قائم کی۔ بادشاہ نے وہاں پورا ایک سال قیام کیا۔

جب مذکورہ علاقے پر قبضہ مستحکم ہو گیا تو سلطان محمود غزنوی نے ہاتھ باندھ کر نہایت ادب سے شیخ شمس الدین کی خدمت میں عرض کیا کہ بفضل تعالیٰ، رسول اللہ صلعم کی مدد اور آپ کی آمد کی برکت سے یہ ملک حضور کے خادموں کے ہاتھوں فتح ہو گیا ہے لہذا اب یہ آپ کے خادموں کو مبارک ہو۔ بندہ اس ملک کی حکمرانی سے کنارہ کرتا ہے۔ مجھے رخصت دیں کہ لاہور کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ شیخ نے اجازت دے کر اسے خدا کے سپرد کیا۔ بادشاہ نے بیس ہزار سوار آپکی خدمت میں چھوڑے اور خود لاہور کی جانب چل پڑا۔

کہتے ہیں کہ جب سلطان لاہور کی طرف روانہ ہو گیا تو شیخ کے خادموں نے جیل گڑھ پر قابض ہونے کے بعد لشکر ساتھ لیا اور جیل میں بیگانہ (۲۵) جو وہ پور (۲۶) بے نگر (۲۷) اور ناگور (۲۸) کے اطراف میں کفار پر حملے شروع کر دیئے (ص ۹ ب) اور بے حد و حساب مال غنیمت سمیٹا اور اسلامی حکومت کو اتنا استحکام نصیب ہوا کہ ان تینوں علاقوں کی طرف سے تحائف اور اطاعت نامے حضور کی خدمت میں آئے۔ آپ دس سال تک جیل گڑھ پر حکمرانی اور کفار کی گوشمالی فرماتے رہے۔

اس کے بعد مسعود ابن عرب کو جو آپ کا معتمد علیہ اور نہایت لائق فائق تھا۔ قلعہ جیل گڑھ میں اپنا نائب مقرر کیا، خود کوٹ کروڑ کی طرف مراجعت فرمائی اور شیخ حسن اور شیخ حسین سے ملائی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور کوٹ کروڑ کو مستقل جائے سکونت قرار دیا۔ نقل ہے کہ ہمارے حبرک مشائخ حضرات کی آمد ۳۵۵ ہجری میں ہوئی۔

آپ اولاد ہیں (A-۲۸) شیخ عیاذ بن شیخ عبدالرحیم بن مطرفہ بن خزمتہ بن حازم بن عیاذ کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر مسلمان ہوئے۔ مغازی مصنفہ واقدی میں ذکر ہے کہ وہ اولاد ہیں اسد بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف جد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی و عیاذ بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب ابن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فرہ بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خذمتہ بن مدرکہ بن الیاس بن معز بن نزار بن معد بن (ص ۱۰) عدنان بن بشر بن معین بن اودین اود بن صحیح بن سلمان بن ثابت بن حمل بن مسلج بن حکیم بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناخور بن شامخ بن ماسخ بن ارغو بن فالخ بن عامر بن صالح بن ہود بن ارشد بن سام بن نوح بن مالک بن متوشلخ بن اختوخ بن بیارو بن مائیل بن قینان بن انوش بن شیش بن ابوالبشر آدم علیہ السلام اجمعین اور آدم چار عناصر پانی، مٹی، آگ اور ہوا سے مل کر بنے تھے اور مرہ بن کعب جن سے سلسلہ نسب خلیل الرحمن (حضرت ابراہیم) تک تھیں واسطوں سے پہنچتا ہے اور ان سے نوح تک آٹھ اور ان سے حضرت آدم علیہ السلام تک دس اور کل چھیاسٹھ واسطے ہیں لیکن از

طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبد اللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی ابن کلاب بن مرہ بن کعب، خلیل الرحمن تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے اور عثمان زیادہ قریب ہیں پھر ابو بکرؓ پھر عمرؓ اور پھر علیؓ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور وہ قریشی تھے جو نضر بن کنانہ قریشی کی اولاد تھے اور قصی اور نضر کے درمیان سات آباء اور نضر بن کنانہ قریشی سے۔۔۔ اور یہ نسبت۔۔۔؟ اور وہ پہلے شخص ہیں جنہیں قریش کا لقب دیا گیا جیسا کہ کتاب "المغرب" میں درج ہے اور اسے نضر قریشی کہا گیا اور قریش ایک عظیم سمندری جانور ہے جس کے منہ سے سانس لیتے اور بولتے وقت آگ نکلتی ہے (?) اور حضرت معاویہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھا (یہاں درمیان سے عبارت گم ہے)۔۔۔ اس لئے انہیں قریشی نام دیا گیا اور اسی مناسبت سے ہمارے مشائخ قریش کہلائے (غالباً) یہاں الواقدی کا تحریر کردہ المیزانی کا یہ بیان ہو گا کہ وہ سمندری جانوروں کا سردار اور ان سے زیادہ طاقتور ہے جیسا کہ قریش عام لوگوں کے مقابلے میں ہیں۔ (ص ۱۰۰) (حوالہ حیاة الحيوان الکبریٰ: کمال الدین محمد بن مویٰ الدمیری، مترجم)

بیان کیا گیا ہے کہ شیخ المشائخ شیخ شمس الدین کو جب ملک وہپال اور جیسل گڑھ پر مکمل فتح حاصل اور سلطنت مستحکم ہو گئی تو آپ نے افواج و عساکر کو ہر مقام پر منتظم مقرر فرمایا۔ ہر طرف سے بے حساب خزانے بطور نذر وصول ہونے لگے۔ تمام ملک ہند آباد و خوشحال ہو گیا۔ یہاں تک کہ کوئی کسی کا محتاج نہ رہا۔ سب کو کلی اطمینان خاطر نصیب ہوا کہ سب اپنے اپنے گھروں میں شاد و آباد تھے۔

ایک دن مسعود ابن عرب نے حضور کی خدمت میں یہ عرض لکھا کہ راجہ وہپال خدا کے حکم سے جہنم واصل ہو گیا ہے اور اس ملعون کے بیٹے راجہ جیسل کا ارادہ ہے کہ دریا عبور کر کے ٹھنڈے (۲۹) کی طرف سے کوٹ کروڑ پر حملہ کرے حضور اور جملہ مسلمان دفاع کی طرف سے غافل نہ ہوں اور اس کا بروقت تدارک کریں تاکہ دشمن مہلت پا کر اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ حضور کو جب اس خط کے مضمون کی اطلاع ہوئی آپ نے شیخ حسین کو چالیس ہزار سوار اور پیادہ فوج دے کر حکم دیا کہ قلعہ چروڑ (۳۰) میں ٹھہریں اور جب وہ ملعون کافر اس طرف رخ کرے تو تمام لشکر

سے اس کا مقابلہ کریں اور میری طرف ہرکارے دوڑائیں۔ میں اپنی فوج کے ساتھ
تمہاری مدد کو پہنچ جاؤں گا (ص ۱۱) شیخ حسین فوج لے کر روانہ ہوئے اور قلعہ چروڑ
میں قیام کیا۔ ایک سال بعد شیخ الشافعی نے کوٹ کروڑ میں اس دار فناء سے وار ہوا کی
صرف رحلت فرمائی۔ انا لله وانا اليه راجعون۔

سید جلال الدین بخاری کے مخطوط میں روایت ہوا ہے کہ جب شیخ حسین کو اس
الٹانک واقعہ یعنی شیخ شمس الدین کے وصال کی خبر ملی تو آپ چند سواروں کے ہمراہ شیخ
مرحوم و مغفور کی قاتحہ خوانی کے لئے روانہ ہوئے۔ ابھی راستے ہی میں تھے کہ اس
کافر ملعون راجہ جیل نے ادھر چروڑ کا رخ کر لیا۔ آپ یہ خبر سنتے ہی راہ سے پلٹے
اور ایک خط صاحبزادہ بلند اقبال شیخ جلال الدین کو جو اس وقت صرف نو سال کے تھے
بدین مضمون تحریر کیا کہ دشمن کافر کے لشکر کی آمد کی وجہ سے جس نے جیسلمیر کی
طرف سے خروج کیا ہے راستے سے واپس جا رہا ہوں۔ آپ قاتحہ خوانی کے بعد میرا
انتظار نہ کریں اور سجانہ نشین ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے والد کے خط کے مطابق
عمل کیا اور محکم ہو بیٹھے۔ ادھر کافروں کا لشکر بھی سندھ (؟) کی حدود میں پہنچ گیا۔
لشکر اسلام بھی جنگ کے لیے متعلق ہوا۔ سات روز مسلسل لڑائی ہوئی۔ ساتویں دن
دونوں طرف کے جنگجوؤں نے تیر و تنگ اور گرز و شمشیر و کند کا اس قدر استعمال کیا
کہ گرد و غبار کی زیادتی سے آسمان تین پر تار یک رہا۔ آخر کفار غالب آگئے (ص ۱۱
ب) اور تمام مجاہدین مع شیخ حسین شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ ایک مسلمان بھی
باقی نہ رہا۔ کفار کی طرف سے ستر ہزار آدمی جنم رسید ہوئے۔ شیخ کا جسد خاکی میدان
جنگ میں پڑا تھا۔ راجہ جیل نے حکم دیا کہ چونکہ شیخ مسلمانوں کے سردار ہیں اس
لیے انہیں اسلامی رسوم کے مطابق دفن کیا جائے۔ قلعہ چروڑ سے ایک مسلمان
طالب علم کو بلایا گیا۔ مولوی محی الدین جو چروڑ کے فضلاء میں ممتاز تھے فوراً اٹھے
اور شیخ مرحوم کو میدان جنگ سے اٹھا لائے اور انہیں قلعہ کی مشرقی سمت دفن کیا۔
اس کے بعد کافر بیکار راجہ نے بارہ روز وہاں قیام کیا اور راجہ لاکھا سے ایک لشکر
طلب کر کے کوٹ کروڑ پر چڑھائی کا ارادہ کیا اور حزیں مارتا اس کے نواح میں جا
پہنچا۔ وہاں پہنچ کر شیخ جلال الدین کی طرف وکیل کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اگر خیریت

چاہتے ہو تو فرمانبرداری کی رسی گلے میں ڈال ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ ورنہ اپنے باپ کے کئے کے نتیجے میں تمہاری قوم کا ایک آدمی بھی اس ملک میں زندہ نہ چھوڑوں گا۔ سلطان جلال الدین نے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ سب نے یہ صلاح دی کہ یہ کافر آپ کے خادموں کے خون کا پیاسا ہے (ص ۱۳) اور ہم میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ بہتر یہ ہے کہ قلعے کو (رسد سے) بھر کر جنگ کریں جیسی اللہ کی رضا ہو گی ویسا ہی ہو گا۔ قلعے کے دروازے بند کر کے توپ و تفنگ اور رھلے جما دیئے۔ وکیل کو کورا جواب دیا اور مضبوط ہو کر بیٹھ گئے۔ جب ایلچی نے راجہ کو یہ صاف جواب سنلایا تو وہ غصے میں بیچ و تاب کھانے لگا۔ (گھوڑے پر) سوار ہو اس نے حکم دیا کہ گردونواح کو تباہ و برباد کر دیں۔ لشکر کفار نے ہر طرف آگ لگا دی اور علاقے کو ویران کر کے رکھ دیا۔ جو بھی مسلمان ملا اسے شہید کر دیا اور قلعے کا محاصرہ کر کے دن رات مصروف جنگ رہا۔ یہاں تک کہ ایک سال گزر گیا۔ قلعے کے اندر غلہ ختم ہو گیا۔ لوگوں کی زندگی دو بھر ہو گئی۔ مجاہدین نے شاہزادے کی خدمت میں جمع ہو کر عرض کی کہ انسان اور مویشی بھوک سے مر رہے ہیں۔ اب کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ ابن مسعود (مسعود بن عرب) کو جو ہمارا بزرگ ملازم ہے راجہ کے پاس برائے وکالت بھیجا جائے۔

ابن مسعود (مسعود بن عرب) اس بد بخت کے پاس پہنچا اور بالآخر (امان کی) درخواست کی۔ کافر نے اسے قبول نہ کیا اور جواب دیا کہ واپس جاؤ، جس الدین کے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دو اور تم سب اطمینان سے قلعے میں رہو۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں مانوں گا (ص ۱۴ ب) جب دایہ ابن مسعود نے واپس آکر تمام ماجرا عرض کیا۔ سب لوگ رو رو کر یہ کہنے لگے کہ شاہزادہ کو ہرگز اس خونخوار کافر کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔

شاہزادہ جلال الدین نے جب یہ بات سنی تو فرمایا کہ ہمارا کافر کے پاس جانا ہی بہتر ہے تاکہ خلق خدا کو امان ملے، اس کے بدلے یہ احقر کفار کا قیدی بنے۔ جلدی سے گھوڑا تیار کیا جائے۔ یہ سن کر عوام اور شاہزادے کے اہل خانہ آہ و زاری کرنے لگے۔ شاہزادہ (جلال الدین) خدا کے بھروسے سوار ہوئے۔ قلعے کا دروازہ کھول دیا اور

ہر شخص کو یہ اجازت دی کہ وہ جہاں چاہے چلا جائے۔ جونہی شہزادے نے لشکر کفار میں قدم رنجہ فرمایا جس جس کی نظر آپ پر پڑی اندھا ہو گیا۔ جب آپ راجہ جیسل کے سامنے پہنچے تو آپ کو دیکھتے ہی اس کی بیٹائی بھی جاتی رہی۔ شیخ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ آپ کا معتقد ہو گیا اور عرض کی کہ اے مخدوم زادہ! ہمارے اندھے پن کا علاج کر دیجئے۔ اگر یہ بندہ یہاں رہے یا کوئی عمل دخل رکھے تو اس کی بیوی کو طلاق ہو جائے۔ میں اپنے ملک کی راہ لوں گا۔ یہ سن کر شیخ قطب الاقطاب نے پانی منگوا یا۔ نوکر نے لوٹا بھر کر پیش کیا۔ آپ نے وضو کیا اور فرمایا کہ جو شخص ہمارے وضو کا پانی آنکھوں پر لگائے گا اس کی بصارت لوٹ آئے گی (ص ۱۳) پہلے راجہ جیسل اور اس کے مقربین نے وضو کا پانی آنکھوں پر لگایا۔ اسی وقت ان کو بیٹائی مل گئی اور ڈیرہ اشٹا اپنے ملک کی طرف روانہ ہوئے۔ اسی طرح تمام کافر لشکریوں نے آنکھوں پر پانی لگایا اور بیٹا ہو کر اپنی راہ لی۔ شاہزادہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مظفر و منصور قلعہ کروڑ میں داخل ہوئے۔ ہر طرف سے مبارک سلامت کی آوازیں بلند ہوئیں۔ مخدوم زادہ کی والدہ محترمہ عصمت خاتون جو اسم اعظم کے ورد میں محو اور خود سے بے خبر تھیں عالم ہوش میں آئیں اور فرمایا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت اقدس میں یہ معاملہ پیش ہوا تھا۔ آپ کی جناب سے یہ فرمان صادر ہوا کہ سلطان جلال الدین چالیس سال تک ملک ہندوستان میں نہایت کامیابی سے حکومت کریں گے اور انکی نسل پھولے پھلے گی۔

ذکر دوم: سید جلال الدین کے ملتوظ میں نقل ہے کہ سلطان نے خطہ کوٹ کروڑ پر اس قدر حسن انتظام اور دبدبے سے حکومت کی کہ ملک کفار سے غزنوی سلطنت کی حدود تک آپ کا محکم حکم چلتا تھا۔ شاہزادے کا اپنی رعایا کے ساتھ ایسا عدل و انصاف کا برتاؤ تھا کہ شیر اور گلے اور بھیڑیے اور بھیڑوں میں دوستی ہو گئی تھی۔ علم و علم میں آپ کا مرجہ اتنا بلند تھا کہ علمائے دہر آپ سے تعلیم پاتے تھے کشف و کرامت اور علم باطنی کی یہ کیفیت تھی کہ ہر شب (ص ۳۳) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آپ کی حاضری ہوتی تھی۔ چالیس سال تک ولایت کروڑ ملک ہند پر بڑی کامیابی سے حکومت کی۔

تقل ہے کہ ایک دن آپ کرسی پر تشریف فرما تھے کہ ایک سفید پوش نورانی چوہا سفید ریش بزرگ دیوار سے برآمد ہوئے اور فرمایا کہ اے فرزند جلال الدین جلدی کیجئے اور اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں پہنچائیے۔ صاحبزادہ نیک الطوار سلطان علی کو اپنا جانشین کیجئے۔ مخدوم زادہ اٹھے، غسل کر کے دو رکعت نماز میں مشغول ہوئے۔ آخری سجدے کی حالت میں آپ واصل باللہ ہو گئے۔

صاحبزادہ بلند اقبال شیخ سلطان علی اس وقت بارہ سال کے تھے انہوں نے شیخ المشائخ کی تجویز و تکفین فرمائی اور نیک سماعت میں تخت شہی پر جلوہ افروز ہوئے۔ اپنے نام کا خطبہ اور سکہ جاری فرمایا۔ چونکہ آپ اس عمر میں ہی علم شریعت کی تحصیل کر چکے تھے اور قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ آپ خلاف شرع کوئی بات زبان پر نہ لاتے تھے۔ جب آپ تخت شہی پر جلوس فرماتے تو آپ کو سلطان ابوبکر کہہ کر مخاطب کیا جاتا تھا۔ سکوں پر بھی سلطان ابوبکر لکھا تھا جبکہ گھر میں سلطان علی کے نام سے پکارتے تھے۔ بعض قاضی کہہ کر بھی بلاتے تھے۔ جب مخدوم زادہ دین و دنیا (کے علوم) پر قابض ہو چکے (ص ۱۳۳) تو آپ نے اپنے اور اپنے بزرگان سلف کے حالات کے بارے میں ایک کتاب تالیف کی جس کا نام ”سر اذکار المائین (۳۱) رکھا۔ کیونکہ مخدوم زادہ کو کشف القیور، کشف الارض اور کشف السماء (یعنی زمین و آسمان اور قیور کے حالات) پر دسترس حاصل تھی۔ (اس کی وجہ یہ تھی) کہ حضرت خضر علیہ السلام سے آپ کی محبت رہتی تھی۔

ایک دن مخدوم زادہ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ مسعود بن عرب کی عرضی پہنچی بدین مضمون کہ اس غلام کی عمر خدمت میں گذری ہے۔ اب ضعف درجہ کمال کو پہنچ گیا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ افواج شہی اس دار الحرب میں مسلسل مصروف پیکار ہیں۔ یہ خطہ اطاعت گزار ہے۔ بندہ درگاہ کی التماس ہے کہ وہ شرف حضوری سے مشرف ہو اور ابدی سعادت حاصل کرے کہ زندگی کی میعاد پوری ہو چکی ہے۔ بجائے اس معتبر خانہ زاد غلام کو منع کرنے کے حضرت مخدوم الملک کو یہ بات اچھی لگی کہ چونکہ مسعود بزرگوار کا ہم محبت اور دیرینہ علوم ہے بہتر یہ ہے کہ وہ باقی

مہر ہمارے حضور میں بسر کرے۔ شیخ نے ابوالفتح بن عبداللہ کو جو کوٹ کروڑ کے کوتوال تھے بلایا۔ خلعت قاخرہ سے سرفراز فرمایا اور جیل گڑھ کا حاکم مقرر کیا۔ ابوالفتح روانہ ہوا اور حویلیں مارتا ہوا بیسویں دن جیل کے قلعے میں داخل ہو گیا۔ مسعود بن عرب کوٹ کروڑ کی طرف چل پڑے اور تیزی سے کوچ کرتے ہوئے (ص ۱۳ ب) شیخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ شیخ نے انہیں اپنی ملازمت و مصاحبت کا اعزاز بخشا۔ اگرچہ صلاح کار تو بہت تھے لیکن مخدوم الملک صرف انہی کی صلاح کو قبول فرماتے تھے۔

مسعود بن عرب بیان کرتے ہیں کہ ایک روز شہزادہ سلطان مراقبے میں بیٹھے تھے اور یہ غلام آپ کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب مراقبے سے سر اٹھایا تو اس غلام کی طرف حوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اے مسعود! میں نے لوح محفوظ میں دیکھا شیخ محمود اوجینی قادسی (۲۲) کی پاکباز دختر ہماری عقد نکاح میں آئے گی اور اس سے دو بیٹے ہوں گے۔ ایک کا نام شیخ احمد اور دوسرے کا شیخ محمد ہو گا اور دونوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے حد و حساب درجات عطا ہوں گے اور ان کی اولاد سے ایک عارف باللہ اور رئیس الاولیاء پیدا ہو گا۔ پس تم حکم خداوندی کے مطابق ہماری شادی کا بندوبست کرو۔ میں اٹھا اور تسلیماً بجا لاتے ہوئے ایک نیک ساعت میں اوجین کی طرف روانہ ہوا۔ چند روز بعد شہزادہ اوجین (۲۳) میں پہنچ کر شیخ محمود کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ غلام سلطان ابوبکر کدوری کی طرف سے حاضر ہو کر اذن باریابی کا امیدوار ہے (ص ۱۵) شیخ محمود نے اپنے چھوٹے صاحبزادے کے ساتھ استقبال کیا۔ بہت سے اعزازات سے مشرف فرمایا اور طرح طرح کی بے شمار نوازشات کیں۔ دوسرے روز میں حرف مطلب زبان پر لایا۔ شیخ نے قبول فرما کر اس بندہ بارگاہ کو خلعت قاخرہ سے نوازا اور بہت سے تحائف دے کر سلطان العارفین کی طرف روانہ فرمایا۔ حصول مطلب کے بعد یہ غلام کوٹ کدور پہنچا اور ایک ایک تحصیل عرض کی۔ مبارک سلامت ہونے لگی۔ حضور نے اس خادم کو خلعت ہائے قاخرہ سے ممتاز و سرفراز فرمایا۔ چند روز میں شاہانہ تیاریوں اور بحسن لوازمات کے ساتھ اوجین کی طرف روانہ ہوئے۔ شاہزادہ بلند اقبال جب اوجین کے نواح میں پہنچے وہاں کے قتل حد احترام شرفاء اور عالم فاضل لوگ حضور کے استقبال کے لئے آئے۔ شیخ محمود آکر آپ کو

جوہلی خاص میں لے گئے۔ پانچ روز خوشی کے اشغال میں گذرے۔ اس کے بعد رسم نکاح منعقد ہوئی (ص ۱۵ ب) شاہزادہ حضور نے من کی مراد پائی۔ ساتویں روز وہاں ہی ہوئی۔ شیخ محمود نے نہایت اعزاز و اکرام اور ساز و سامان کے ساتھ مع قبائل رخصت کیا۔ بخیریت و کامرانی کوٹ کور لوٹے۔ سات روز تک خوشی کے شادیاں بچتے رہے۔

(نقل ہے کہ سلطان ابوبکر نے نواح غزنی کے ایک زمیندار کی لڑکی سے شادی کی تھی۔ لیکن اس خاتون کے بطن سے کوئی اولاد نہ ہوئی اور وہ لاولد ہی مر گئی۔)

اولاد ایک سال کے بعد اس بی بی سے ایک بیٹا تولد ہوا جس کا نام احمد رکھا گیا اس کے تین سال کے بعد ایک اور بیٹا ہوا۔ اس کا نام شیخ محمد رکھا۔ اسے ابو صالح بھی کہتے تھے۔ جب دونوں بیٹے پندرہ سال کے لگ بھگ ہوئے ان کی والدہ ماجدہ رحلت فرما گئیں۔ اس کے بعد شیخ نے شادی نہ کی اور تہجد اختیار کرتے ہوئے عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ اپنی زندگی ہی میں آپ نے سلطان احمد کے نام کا سکہ جاری فرمایا اور حکومت سونپ دی۔ شیخ احمد بے شمار سواروں کو ساتھ لے کر دیپال گڑھ اور جیل گڑھ کی طرف جاتے حالات سے آگاہی حاصل کرتے اور نظم و ضبط قائم فرماتے۔ شیخ محمد اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں حاضر رہا کرتے۔

نقل ہے کہ شیخ احمد نے بے شمار لشکر کے ہمراہ (ص ۱۸) دیپال گڑھ کی طرف مراجعت فرمائی اور چند ماہ وہاں قیام کیا۔ سلطان المصلح ابوبکر نے شیخ احمد کے نام خط لکھ کر محلے کے نیچے رکھا۔ اسی وقت وہ خط شیخ کی خدمت میں پہنچ گیا۔ لکھا تھا کہ فوراً یہاں پہنچ جائیے کیونکہ ہم دوست (حقیقی) کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ شیخ احمد نے خط پڑھتے ہی کوٹ کروڑ کی جانب کوچ کیا اور منزلیں مارتے شتلی سے سلطان کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت سلطان العارفين نے تسبیح، مصلیٰ، خرقہ، عصا اور دوسرے تمکلات ان کے سپرد کئے۔ خود حجرے کا دروازہ بند کر لیا اور نوافل میں مشغول ہو گئے۔ رات کے پچھلے پہر واصل ہوا۔ علی الصبح جبینہ و عینین کے بعد آپ کو والد کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ وفات کے وقت عمر شریف اسی برس تھی۔ آپ کے بعد شیخ احمد تخت نشین ہوئے۔

قتل ہے کہ شیخ محمد غوث نے اپنے والد ماجد کی خدمت میں علم لدنی اور علم شریعت کی تحصیل کی۔ حضرت مخدوم الاولیاء نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا تھا کہ تمہیں جو کچھ ملنا ہے حضرت خضر کی طرف سے مرحمت ہو گا۔ ان سے تمہاری ملاقات بیت اللہ شریف میں ہو گی۔ آپ حسب الحکم مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہوئے۔ صاحب جزاہ صاحب کمال اشتیاق سے (ص ۸ ب) روانہ ہو کر حصار شامان (۳۳) میں شیخ محمد نور اللہ کی خدمت میں پہنچے اور کسب فیض کیا۔ سات روز کے بعد رخصت ہو کر بلخ (۳۴) آئے اور شیخ احمد خضرویہ (۳۵) کی خدمت میں دس روز تک فیض یاب ہونے کے بعد بیت اللہ شریف کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ دمشق پہنچے پر شیخ وجیہ الدین محمد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے صاحب جزاہ صاحب کے احوال سے آگاہ ہو کر فرمایا کہ آپ یہاں ٹھہریئے۔ انشاء اللہ جو آپ کا مقصود و مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حاصل ہو جائے گا۔ شیخ محمد غوث نے کوئی توجہ نہ کی اور وہاں سے روانہ ہو کر بغداد کہنہ آئے۔ یہاں حضرت امام اعظمؒ (۳۶) کے روضے کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ تین دن رات مقبرے میں قیام کیا۔ ایک رات خواب میں حضرت امامؒ کی زیارت ہوئی۔ آپ سے بغل گیر ہوئے وہ آپ کو سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس عالی میں لے گئے۔ حضورؐ نے شیخ محمد غوث کا ہاتھ حضرت خضر علیہ السلام کے ہاتھ میں تفویض فرمایا۔ شیخ کو اس رات بے شمار عنایات و فیوض و برکت اور درجات عالیہ حاصل ہوئے۔ بیت اللہ میں مقام میلے پر حضرت خضر کے ہاتھوں فیض یابی کا وعدہ پورا ہوا۔ حضرت سرور کائناتؐ نے شیخ محمد غوث کو شیخ کمال الدین علی شاہ قریشی (ص ۱۷۱) کا خطاب عطا فرمایا۔ چنانچہ صبح ہونے پر ہر شخص آپ کو شیخ کمال الدین علی درویش کے نام سے پکارنے لگا۔ وہاں سے بیت اللہ شریف کی طرف روانہ ہو کر جدہ پہنچے۔ احرام حج باندھا اور رات کو عبادت و ریاضت میں مشغول ہوئے۔ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اے فرزند کمال الدین! تمہارا مقصود و مطلوب حاصل ہوا، اٹھ، یہ کہہ کر ان کا ہاتھ پکڑا اور بیت اللہ شریف میں پہنچا دیا۔ آپ نے مصلائے خفی (۳۷) پر دو گانہ شکر ادا کیا جو کچھ ان کے پاس شیخ کی امانت موجود تھی۔ مکمل طور پر شیخ کو عطا کی۔ چنانچہ شیخ نے چودہ سال تک

بیت اللہ شریف میں قیام فرمایا۔ چونہ بارح کی سعادت حاصل کی۔ بعد ازاں روضہ سرور کائنات ختم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ چونہ سال آپ کے روضہ مبارک کی جلوری کی اور آپ کی خدمت میں رہ کر ہمیشہ رہنے والی سعادت اور بے شمار فیوض حاصل کئے۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ اپنے محل کی کچھ خبر نہ رہ گئی تھی اور مقام علوی میں محو رہتے تھے۔ اسی اثناء میں حضرت خاتم الانبیاء نے شیخ کمال الدین کو حکم فرمایا کہ تمہارا مستقل ٹھکانہ ملتان میں ہے وہاں جا کر سکونت اختیار کرو (ص ۷۷) آپ کے فرمان پر عمل کے ذریعے سعادت ابدی اور فتوحات سرمدی حاصل کرنے کے لئے ملتان کی طرف مریض ہوئے اور چلتے چلتے بغداد پہنچ گئے۔

ذکر دویم از محفوظ مخدوم العالم (۳۸) : نقل ہے کہ اس وقت بغداد میں عظیم عارف کمال سالک اور محقق شیخ کبیر حضرت شیخ عبدالغفور جیلانی (۳۸۸) کے پوتے شیخ عیسیٰ سجاد نشین تھے۔ انہیں سماع کا شوق تھا۔ ایک روز شیخ کمال الدین بغداد کے نواح میں جنگل میں پھرتے پھرتے شیخ عیسیٰ (۳۹) کے قوالوں سے ملائے ہوئے۔ شیخ کمال الدین نے انہیں حکم دیا کہ وہی گیت پیش کرو جو تم شیخ عیسیٰ کی مجلس میں گایا کرتے ہو۔ قوالوں نے چند بیت گائے۔ انہیں سن کر شیخ کی یہ حالت ہوئی کہ آتش شوق بھڑک اٹھی جس نے آپ کو جلا کر راکھ کر ڈالا۔ قوال حیران پریشان رہ گیا۔ جب اس نے راکھ کو کھینچا تو ایک بیش قیمت موتی ہاتھ لگا۔ قوال نے اٹھا لیا اور اسے دستار میں باندھ لیا۔ رات کو وہ قوال جب شیخ عیسیٰ کی خدمت میں پہنچا تو موتی دستار میں جھک جھک کر رہا تھا۔ (ص ۱۸۸) شیخ نے پوچھا کہ یہ تیری دستار میں کیا ہے۔ قوال نے فی الغور وہ چمکدار موتی آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ شیخ عیسیٰ نے وہ موتی اپنی البیہ کے سپرد کر دیا۔ البیہ نے اس موتی کو اپنی بی بی بی فاطمہ کی چوٹی میں باندھ دیا۔ جس وقت شیخ تلاوت قرآن مجید میں مشغول ہوتے تو تلاوت کی آواز سے موتی سے پانی بننے لگتا یہاں تک کہ اس محصورہ کا تمام بدن بھیگ جاتا۔ اہل خانہ نے پوری حقیقت شیخ عیسیٰ کے گوش گزار کر دی۔ شیخ نے قوال کو بلا کر پوچھا کہ تم نے یہ موتی کہاں سے حاصل کیا ہے کہ اس جیسی عجیب و غریب خاصیت کسی اور موتی میں

میں قوال نے تمام قصہ بالتفصیل بیان کر دیا۔ شیخ اٹھے اور وہ موتی اس مستورہ کی چوٹی سے نکال کر اپنے صلی کے نیچے رکھ لیا اور خود بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گئے یہاں تک کہ ایک عمل سے شیخ کمال الدین اپنی اصلی صورت کے ساتھ ظاہر ہو گئے۔ دونوں صاحبان نے مصافحہ و معائنہ کیا، ایک دوسرے کی باتوں سے مفلوط ہوئے اور کھانا تناول فرمایا۔ بعد میں شیخ عیسیٰ نے فرمایا کہ اے شیخ! تمہارے موتی کو تقدیر الہی کی چمک نے ہماری معصومہ کے بار میں پرو دیا ہے۔ اب ہم بھی اس کے ساتھ تمہارا عقد شری کرتے ہیں (ص ۱۸ ب) شیخ کمال الدین نے ایجاب و قبول کیا۔ چھ ماہ کے بعد شیخ عیسیٰ سے رخصت کی اجازت چاہی اور اہلیہ کو ساتھ لے کر بغداد سے روانہ ہوئے اور منزلیں مارتے کوٹ کوڑ پھنچ گئے۔

تین سال کے بعد حضرت شیخ کمال الدین کی زوجہ محترمہ زبیدہ جیلانی (۴۰) کے بلن سے ایک فرزند ارجمند تولد ہوئے جن کا نام بہاول حق (۴۱) رکھا گیا۔ ان کے چار سال بعد بی بی بی کمال خاتون پیدا ہوئیں۔ شیخ محمد غوث (شیخ کمال الدین) اور شیخ احمد غوث ہر دو بھائیوں میں عالیت محبت و مودت تھی۔ شیخ محمد غوث کو علاقہ دنیوی اور سلطنت و حکومت سے کوئی دلچسپی نہ تھی اور وہ تنہائی میں ہر وقت یاد حق میں مشغول رہتے تھے۔

مکتوبت شیخ حسن وہپال پوری میں نقل ہے کہ شیخ احمد کاروبار حکومت چلاتے تھے۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ شیخ المشائخ قطب الاقطاب حضرت سلطان علی حبرے میں بیٹھے تھے۔ فرمایا۔ بیٹا! تم اپنی عمر دنیا داری میں بسر کر رہے ہو۔ علم (الدنی) کے بغیر یہ سب بے فائدہ ہے۔ تمہارے نصیب میں جو کچھ مقرر ہے وہ تمہیں حضرت شیخ جمال الدین سلیمان (۴۲) کی خدمت میں ملے گا۔ جو گو تووال (کھو تووال) (۴۳) میں سکونت رکھتے ہیں۔ ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ (ص ۱۹) جو نصیب میں ہے مل جائے گا۔ شیخ احمد دنیاوی تعلقات سے منہ موڑ کر اور اپنی جگہ شیخ حسن کو تخت حکومت پر بٹھا، چند ملازموں کے ہمراہ قصبہ کھو تووال کی جانب روانہ ہوئے۔ سات روز بعد مذکورہ قصبے میں پہنچے اور شیخ جمال الدین کی قد مبوسی کی۔ شیخ نے فرمایا "آتے ہی حضرت شیخ سلطان علی کے فرمانے کے مطابق اپنے حصے کے طالب

ہو۔ شیخ احمد نے عرض کیا آپ جیسے جو دو سخا کے منبع سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ فرمایا خاطر جمع رکھو۔ رہنے کو حجرہ مرحمت فرمایا اور روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ وہاں دو سال تک چلے کھینچے اور ریاضت کی۔ مرشد شیخ جمال الدین سلیمان کی برکت سے فیوض ربانی سے مشرف ہوئے۔ جو مقدر تھا حاصل کیا اور مرتبہ عالی پر فائز ہوئے۔ حضرت شیخ جمال الدین نے فرمایا کہ بابا! سلطنت تمہارے نصیب میں ہے جاؤ اور ملک پر حکومت کرو۔ حضرت شیخ احمد تین سال تک درجات بلند حاصل کرنے کے بعد اپنے ملک میں کامیابی سے حکومت کرنے لگے (ص ۱۹ ب) جب حضرت محمد غوث الہیہ سمیت بغداد سے آئے تو چند روز بعد شیخ احمد نے کہا کہ اے برادر محترم! شیخ عیسیٰ کی دوسری صاحبزادی ہمارے نصیب میں ہے کہ لوح محفوظ میں اسی طرح لکھا ہے۔ شیخ محمد غوث نے اپنی الہیہ محترمہ سے ذکر کیا۔ انہوں نے اس پر صاد کیا اور ایک خط شیخ عیسیٰ کی خدمت میں روانہ کیا۔ شیخ جیلانی نے قبول فرمایا۔ یہاں دونوں بھائی اور اہل خانہ تیار ہو کر بغداد کی طرف روانہ ہوئے لوازم سلطنت از قسم لشکر اور خیمہ و خرگاہ کے ساتھ شیخ جیلانی کی خدمت میں پہنچے۔ بی بی جنت خاتون سے نکاح کے لئے ایک دو روز نواح بغداد میں قیام فرمایا اور اس کار خیر کی تکمیل کے بعد ازواج کے ہمراہ کوٹ کروڑ واپس آگئے۔ دونوں بھائیوں نے اپنی بیگمات کو ایک ہی حویلی میں ٹھہرایا۔ بی بی جنت خاتون کے بطن سے چار بیٹے پیدا ہوئے۔

اول: حضرت مخدوم عبدالرشید

دوئم: شیخ عبدالرحمن

سوم: شیخ طاہر

چہارم: شیخ سادھن

ایک بی بی بی بھراں خاتون بھی پیدا ہوئی۔ (ص ۱۲۰)

شیخ احمد غوث کے ایک اور بیوی سے تین بیٹے تھے۔

اول: شیخ موسیٰ نواب

دوئم: داد لدربا

سوم: شیخ ملا فقیر

شیخ احمد غوث نے باقی عمر فقیری میں بسر کر دی۔ (شیخ احمد غوث کی خواہش تھی کہ شیخ محمد غوث سلطنت پر قابض ہو کر حکومت کریں۔) لیکن انہوں نے کوئی التفات نہ کیا۔ آخر انہوں نے الحجاز کی کہ خزانہ ہی ہاتھ لیجئے۔ جو اب ملا کہ یکجا رہنے دیں۔ بہت کوشش کی شیخ نے قبول نہ کیا۔ اس طرح دونوں بھائی محبت اور اتفاق سے پندرہ سال حکومت کرتے رہے۔ بعد ازاں شیخ محمد غوث کا وصال ہو گیا اور آپ والد بزرگوار کے پہلو میں دفن ہوئے۔ شیخ احمد غوث نے سلطنت اپنے بھتیجے شیخ بہاء الدین کے سپرد کر دی۔ چنانچہ ہر علاقے سے مشائخ، زمیندار اور دوسرے شرفاء ماتم پرسی کی جو غلتیں اور نقد و جنس لاتے تھے وہ سب کچھ حضرت شیخ بہاء الدین کے حوالے کیا جاتا تھا۔ اس وقت شیخ بہاء الدین کی عمر بارہ سال تھی اور مخدوم عبدالرشید نو سال کے تھے۔ دوسرے بھائی چھوٹے تھے۔ حضرت شیخ بہاء الدین نے قرآن مجید سات قراتوں کے ساتھ کوٹ کوٹھ میں مولانا نصیر الدین لہنی سے حفظ کیا۔ پھر خراسان اور بغداد کی طرف روانہ ہوئے (ص ۲۰ ب) وہاں سے بخارا آئے اور حصول علم میں ہمہ تن مشغول ہو گئے۔ یہاں تک کہ اجتماع کے درجے تک پہنچ گئے۔ کمال عفت و قابلیت کے سبب اہل بخارا انہیں بہاء الدین فرشتہ کہہ کر پکارتے تھے۔ خراسان اور بخارا میں آپ کو بڑی شہرت حاصل ہوئی۔

وہاں سے حج بیت اللہ کے ارادے سے تشریف لے گئے۔ سعادت حج کے بعد روضہ مبارک حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئے اور پانچ سال مجاور رہے۔ مدینہ منورہ میں شیخ کمال الدین محمد عیسیٰ (۱۳۳) سے جو اپنے عہد کے عظیم محدثوں میں سے ایک تھے علم لدنی کی تحصیل میں مشغول ہوئے۔ بعد ازاں نہانے کے کالوں سے برکتیں اور سعادتیں حاصل کیں۔ جن کا مفصل حال سیر العارفین (۴۴) میں درج ہے وہاں سے معلوم ہو گا۔ سلطان محمد غوث کی وفات کے دو سال بعد شیخ احمد غوث کا وصال ہوا اور آپ کو بھائی کے پاس دفن کیا گیا۔ اس وقت مخدوم عبدالرشید کی عمر چودہ سال تھی۔ آپ کی والدہ محترمہ اور خالہ عقیقہ ابھی دونوں حیات تھیں۔ وفات کے وقت شیخ احمد غوث کی عمر چھیالیس سال تھی۔ مخدوم عبدالرشید

صف ماتم پرسی پر بیٹھے۔ تمام ملک ہند، بلخ، بخارا اور غزنی کے لوگوں نے ماتمی جلسوں
 ارسال کیں اور مخدوم زاہد کو تخت سلطنت پر بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال تھا۔
 کم عمری ہی میں اسی قدر انصاف اور نظم و ضبط سے کاروبار سلطنت چلایا کہ والد محترم
 سے دس گنا زیادہ معلوم ہوا۔ ملکوں ملکوں آپ کا حسن اخلاق مشہور اور خراج مملکت
 دگنا ہو گیا (ص ۱۲۱) رعایا ہنسی خوشی زندگی بسر کرنے لگی۔ شیخ محمد غوث مرحوم کی
 اہلیہ محترمہ بی بی فاطمہ خاں نے جو زندہ تھیں اپنی بیٹی کمال خاتون (۳۵) کو آپ سے
 بیاہ دیا۔ کچھ عرصے بعد بی بی کمال خاتون کے بطن سے آپ کے ہاں دو بیٹے متولد
 ہوئے۔ ایک کا نام شیخ ابو بکر اور دوسرے کا شیخ محمد تھا۔ تین سال بعد دونوں بہنیں شیخ
 عیسیٰ گیلانی کی بیٹیاں فوت اور کوٹ کروڑ میں مدفون ہوئیں۔

حضرت مخدوم عبدالرشید حکم الہی کے مطابق اپنے تمام کمالات و برکات کے ساتھ
 ملتان جنت المکان تشریف لے گئے۔ جہاں آج شیخ الاسلام مخدوم بہاء الدین کا روضہ
 مبارک ہے ان دنوں وہاں ایٹر ممانڈیو کے بیٹے تارا سنگھ کا مکان تھا۔ آپ نے وہاں
 سکونت اختیار کی۔ اس زمانے میں ملتان میں شیخ محمد یوسف المعروف شاہ گردیز (۳۶)
 صاحب ارشاد تھے۔ گھڑیالی دروازے (۳۷) کے نزدیک بڑے ٹیلے (۳۸) کے نیچے ان
 کا ایک کنواں تھا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ آپ کی کرامت سے بغیر بیلوں
 کے چلتا تھا۔ آپ بڑے صاحب کمال و کشف و کرامت بزرگ تھے۔ ایک دن حضرت
 مخدوم عبدالرشید وہاں تشریف لے گئے اور کنوئیں کو چلنے سے روک دیا۔ آج تک وہ
 کنواں بند ہے۔ ملتان کے بزرگ اور اکابر آپ کی یہ کرامت دیکھ کر حیران رہ گئے اور
 آپ کے مطیع و منقاد ہوئے (ص ۱۱ ب) تمام خاص و عام آپ سے محبت کرتے اور
 جان و مال آپ پر نثار کرتے تھے۔ آپ ایسے جاہل گمراہ اور کم ہمت لوگوں کو جو
 معروف احکام کو بجالانے میں کوتاہی کے مرتکب ہوتے تھے ہدایت فرماتے تھائیں
 تک کہ چالیس پچاس اشخاص آپ کی نظر کیسیا اثر سے بالکل (ولی) ہو گئے۔ حضرت
 مخدوم کے رشد و ہدایت کا شہرہ تمام ممالک و اطراف میں پھیل گیا۔ علوم قرآن و
 حدیث کی تعلیم و تدریس میں آپ بے مثل تھے اور بے شمار خلقت آپ سے مستفید
 ہوتی تھی۔ ستر آدمی آپ کے علم کی بدولت کامل و قاضی قرار پائے۔

ایک شب مطالعہ کتب اور علماء و فضلاء کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے یہاں تک کہ رات کا صرف ایک پہر باقی رہ گیا۔ آپ پر نیند کا غلبہ ہوا۔ خواب میں والد بزرگوار سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے فرمایا کہ اے فرزند! چار روز کے بعد تمہارے چچا زاد بھائی حضرت شیخ بہاء الدین تمام دینی و دنیاوی کامیابیوں کے حصول کے بعد بیت اللہ شریف سے روانہ ہو کر ملکن پہنچ رہے ہیں۔ تمہیں چاہئے کہ اپنی ہمشیرہ کا نکاح ان سے کر دو اور خود حرمین شریفین کی زیارت کے لئے چل پڑو اور وہاں سے وہ سعادت و نعمت جو انزل سے تمہارے لئے مقدر ہو چکی ہے حاصل کرو۔ باقی حصہ یہاں (۳۹) سے ملے گا۔ مخدوم خواب سے بیدار ہوئے تو بھائی کی آمد کی خوش خبری سے بہت خوش ہوئے۔ دنیاوی کاروبار کی طرف سے دل اچھٹ ہو گیا اور آپ حسب وعدہ بھائی کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔

قتل ہے کہ حضرت مخدوم بہاء الحق چوتھے روز ملکن کے قلعے کے اندر دیو دروازہ سے تشریف لائے۔ عصر کی نماز کا وقت تک ہو رہا تھا وضو کے لئے پانی طلب فرمایا۔ کنویں کا پانی بدمذہب اور کڑوا تھا (ص ۱۲۲) کنوئیں پر ڈول بھی نہیں تھا۔ آپ نے کنوئیں کے اندر نظر ڈالی تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پانی خود بخود اوپر آگیا۔ آپ نے وضو کیا۔ جونہی ہاتھ پانی میں ڈالا پانی بیٹھا ہو گیا۔ جب یہ خبر مخدوم عبدالرشید کو پہنچی آپ فوراً سوار ہو کر بہر استقبال آئے اور بھائی سے ملاقات ہوئے۔ ملاقات کے بعد دونوں بھائی دولت خانے میں تشریف لے گئے اور سب سے پہلے شیخ بہاء الحق کی والدہ ماجدہ کی فاتحہ پڑھی۔ فاتحہ خوانی سے فارغ ہونے کے بعد مخدوم عبدالرشید نے اپنی ہمشیرہ بی بی بھراں خاتون کا نکاح مخدوم شیخ بہاء الدین سے کر دیا۔ اس بی بی کے بہن سے سات فرزند تولد ہوئے۔

اول: شیخ صدر الدین عارف بالله

دوم: مولانا برہان الدین

سوم: مولانا قدوة الدین

چہارم: مولانا خمس الدین

پہم : مولانا شہاب الدین
 ششم : مولانا ضیاء الدین
 ہفتم : مولانا علاء الدین

مخدوم عبدالرشیدؒ نے تمام مال و متاع اور حکومت شیخ بہاء الدینؒ کے سپرد کی اور رخصت چاہی۔ شیخ بہاء الدینؒ نے فرمایا کہ اے بھائی! مدت سے یہ فقیر پردیس میں اور آپ کے دیدار سے محروم اور فراق میں بے چین رہا۔ اب ملاقات نصیب ہوئی ہے تو پھر وہی جدائی مجھے منظور نہیں۔ مخدوم نے جواب دیا جس طرح آپ قسمت کے ہاتھوں پردیس میں رہنے پر مجبور تھے اسی طرح اب مجھے بھی باہر جانا ہے جیسا کہ خواب میں حکم ہو چکا ہے۔ یہ کہا اور وہاں سے رخصت ہوئے۔ سات خادم ہمراہ لے کر حرمین شریفین کا قصد کیا (ص ۱۳ ب) شیخ بہاء الدینؒ نے حکومت و مملکت اور خزانوں کا خوب انتظام کیا۔ مخدوم عبدالرشیدؒ ملتان سے شہر مریو (۱۴۹) میں تشریف لائے۔ وہاں شیخ نصیر الدین عالی مرتبہ صاحب کشف و کرامت بزرگ رہتے تھے۔ ان کی خدمت میں گئے تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں سے تشریف آوری ہوئی۔ مخدوم نے جواباً فرمایا کہ خطہ دارالامان ملتان سے۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ کیا آپ شیخ بہاء الدینؒ کو بھی جانتے ہیں۔ فرمایا ”وہ اس فقیر کے چچا زاد بھائی ہیں اور حل ہی میں بیت اللہ شریف سے ملتان آئے ہیں۔“ بزرگ یہ بات سنتے ہی اپنی جگہ سے اٹھے، آپ سے بغل گیر ہوئے اور بڑی معذرت کی۔ گھر میں لے گئے، سات دن اپنے پاس مہمان رکھ کر ان پر پوری توجہات مرکوز کر دیں اور وداع کیا۔ وہاں سے آپ حضرت سید حسینی (۵۰) کی خدمت میں تیریز (۵۱) پہنچے جو صاحب کمال بزرگ اور حضرت جلال الدین تیریزیؒ (۵۲) کے بھائی تھے۔ جلال الدینؒ خود بھی تیریز کے مشائخ عظام میں شامل اور صاحب کشف و کرامت تھے اور شیخ بہاء الدینؒ سے اکثر آپ کی صحبت رہتی تھی۔ وقت ملاقات پہچان کر انہوں نے آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور پوچھا کہ اے عبدالرشیدؒ ہمارے بھائی شیخ بہاء الدینؒ کا حال سناؤ۔ (عبدالرشیدؒ کہتے ہیں) میں نے عرض کیا کہ وہ ملتان میں تشریف فرما ہیں۔ شیخ تیریزیؒ نے فرمایا کہ میں انشاء اللہ عنقریب ملتان جا کر آپ سے شرف ملاقات حاصل کروں گا۔ دونوں مشائخ عظام نے

شیخ عبدالرشیدؒ پر کمال توجہ و عنایت فرمائی۔ وہاں سے شیخ نجم الدین (۵۳) کی خدمت میں پہنچے۔ انہوں نے بھی بہت توجہ فرمائی۔ چونکہ آپ کو حرمین شریفین پہنچنے کا کمال اشتیاق تھا (ص ۱۲۳)۔ بن رات منزلیں مارتے اس جی و قوم کے فضل و کرم سے حرم کعبہ پہنچے اور فریضہ حج ادا کیا۔ بعد ازاں سرور کائناتؑ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت سے مشرف ہوئے اور تین سال وہاں مجاوری کی۔ مخدومؒ فرماتے ہیں کہ میں وہاں اکثر شیخ کمال الدین کی خدمت میں حاضر رہتا تھا۔ ایک رات خواب میں حضرت سرور کائناتؑ نے ارشاد فرمایا کہ اے عبدالرشیدؒ! تمہیں جو کچھ بھی ملے گا سید علی ہدائیؒ (۵۴) سے ملے گا وہاں جاؤ۔ چنانچہ یہ فقیر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت لے کر ہدان (۵۵) کو چل پڑا اور سمندر کے کنارے کنارے چلتا ہوا سکندریہ (۵۶) کی بندرگاہ میں پہنچا۔ وہاں بندرگاہ کی دس بیگمہ زمین پر پہرہ لگا ہے (A-۵۶) اور اردگرد کے بہت سے لوگ اس زمین میں مقید ہیں۔ وہاں ایک سرو پا برہنہ فقیر ہر وقت مقام حیرت میں مستغرق رہتے تھے۔ ان بزرگوار کی خدمت میں پہنچا۔ بفضل خدا عالم محویت سے عالم ہوش میں آگئے۔ کرم فرمایا اور پوچھا کہ ہدان کی طرف جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ آپ جیسے صاحب کشف و کرامت سے کچھ پوشیدہ نہیں۔ فرمایا جلدی جاؤ کہ تمہارا نصیبہ یاد رہنے کا وقت آن پہنچا ہے۔ یہ کہہ کر دوبارہ عالم محویت میں چلے گئے۔ یہ فقیر حقیر سمندر کی راہ سے ہو کر ملکوں ملکوں گزرتا گرو نواح کے پاک طینت بزرگوں کی زیارت کی برکت سے مستفیض ہوتے ہوئے (ص ۱۳۳ ب) سلطان المشائخ والملتؒ ولی کامل حضرت سید علی ہدائیؒ کی خدمت میں پہنچا جن کا شجرہ خلافت اس طرح ہے۔ سید علی ہدائیؒ صحبت یافتہ ابوالقحطیط طرطوسی (۵۷) وہ مرید تھے شیخ عبدالواحدؒ (۵۸) کے، وہ حضرت شیخ شبلؒ (۵۹) کے، وہ حضرت امام موسیٰ رضاؒ کے، (۶۰) وہ حضرت امام موسیٰ کاظمؒ (۶۱) کے آگے حضرت امام جعفر صادقؒ (۶۲) حضرت امام باقرؒ (۶۳) حضرت امام زین العابدینؒ (۶۴) حضرت امام حسینؒ۔ حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔

سید علی ہدائیؒ کی فیض رسانی کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے دو حجرے تعمیر فرمائے ہوئے تھے جن کا درمیانی فاصلہ ایک کوس تھا۔ ایک سال ایک حجرے میں چلہ کالتے

چلہ ختم ہونے پر باہر تشریف لائے۔ مرید پورا سال باہر جمع ہوتے جاتے۔ جس دن چلہ ختم ہوتا۔ مرید دائیں بائیں صف باندھے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت سلطان المشائخ دوسرے حجرے کی طرف تشریف لے جاتے وقت دائیں بائیں مریدوں پر نظر ڈالتے جاتے۔ دائیں طرف کے مرید غوث (۶۵) بن جاتے جبکہ بائیں طرف والے قلب (۶۶) کے مرتبے پر قائل ہو جاتے۔ میں دائیں طرف کے مریدوں کی صف میں کھڑا تھا۔ حضرت سلطان العارفين نے میری طرف نظر کرم نہ فرمائی۔ میں آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑا (ص ۱۲۳) جب آپ نے دوسرے حجرے کے دروازے پر قدم رنجہ فرمایا میری طرف نظر کی اور زبان گوہر بار سے فرمایا عبدالرشید اندر آج نہ غلام آپ کے حکم کے مطابق حجرے کے اندر چلا گیا۔ جو فیض میرے نصیب میں تھا مجھے عطا ہوا۔ بلکہ حد سے زیادہ ہوا۔ میں نے دو گناہ شکر ادا کیا اس فقیر کو مرتبہ بلند ملا۔ حکم ہوا کہ مسجد کے حجرے میں قیام کرو۔ فرش سے عرش تک تمام حجاب اٹھ گئے۔ بندہ ایک سال تک ریاضت میں مشغول رہا۔ کسی دن حضرت سلطان المشائخ اس غلام کو اپنے حجرے میں یاد فرماتے تھے۔ بندہ ان کی صحبت عالیہ سے مستفیض ہوتا تھا۔ مریدوں کی ایک بڑی جماعت سلطان المشائخ کے حضور میں حاضر رہتی تھی۔ انہیں حد ہوا کہ ہم اتنی مدت سے شیخ العارفين کی خدمت میں حاضر ہیں ہم پر تو نظر رحمت نہیں ہوئی جبکہ یہ درویش چند روز ہی میں مراتب اعلیٰ پر قائل ہو گیا ہے۔ چلہ ختم ہونے پر حضرت حجرے سے باہر تشریف لائے۔ تمام مرید جمع ہو گئے اور انہوں نے نہایت عجز سے دست بستہ عرض کی کہ اے فیوض الہی کے سمندر اور اے لامتناہی بخشش کے بادل۔ اس درگاہ کے یہ فقیر غلام کوئی بیس سال سے اور کوئی تیس سال سے اس ساقی عالی مقام کے سامنے دست سوال دراز کئے ہوئے ہیں۔ ابھی تک اکسیر کا ایک قطرہ (ص ۲۳ ب) ان کے حلق میں نہیں پٹکا کہ پیاس بجھے، آپ کے انوار کی ایک شعاع بھی ان کے ذوق و شوق پر نہیں پڑی جبکہ یہ ہندی مرید تھوڑے ہی دنوں میں آپ کے لطف و کرم سے فیض یاب ہو گیا۔ سید علی ہدائی نے جواباً فرمایا کہ خوش قسمت فرزند عبدالرشید اب ہماری رہنمائی کا محتاج نہیں رہا اس کی ہمت کا شاہباز بلند پرواز ہے تمہیں جو کچھ بھی ملتا ہے اسی فقیر سے ملے گا۔ پس اسی کی طرف

رجوع کرو۔ تمام مرید حضورؐ کا یہ حکم سنتے ہی اس احقر کی طرف متوجہ ہوئے۔ جو فیوض و برکت اس بارگاہ سے حاصل ہوئے تھے مربی کمال کے حکم سے ان کو پہنچاتا رہا۔ تین سال کے بعد رخصت کی اجازت ملی تو ارشاد ہوا کہ اے عبدالرشید! اپنے وطن ملتان میں جا قیام کرو، دنیا سے کوئی تعلق نہ رکھو، توکل علی اللہ پر گزارا کرو۔ جو مل و اسباب گھر میں ہے اسے راہ خدا میں تقسیم کر دو۔ خاکسار لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ زینب و زینت سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اپنی اولاد میں سے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہ کرنا، نہ روضہ و خانقاہ بنوانا۔ کسی کو لٹ کپ مرید (۶۷) نہ بنانا، تمہاری اولاد کی دعا اللہ ذوالجلال کی طرف سے قبول ہوگی۔ تمہاری خاکساری تمہاری قبر کی زینت کا باعث ہوگی اور تمام مرید تمہارے فرزندوں کے حکم کی پیروی کریں گے۔ تمہاری اولاد میں سے کوئی ایک دوسرے کا محتاج نہ ہو گا (ص ۱۲۵)۔ یہ کہہ کر رخصت فرمایا۔

جب مخدوم عبدالرشیدؒ اپنے مرشد کمال سے رخصت ہو کر عازم ملتان ہوئے تو راہ میں واردات الہی و فتوحات غیبی پر مشتمل بہت سے حالات ظہور میں آئے۔ عشق ربانی کی آگ نے جسم و ہوش انسانی کو جلا ڈالا۔ موجد حقیقی مخدوم اسی حالت بے ہوشی میں ایک عار میں داخل ہوتے اور چشم حیرت سے نکلنے باندھ کر آسمان کی طرف ٹکا کرتے۔ چھ ماہ تک کھانے پینے اور پینے کا ہوش نہ رہا۔ آپ کا خادم عبداللہ جو آپ کا رفیق سفر اور اس مدت میں آپ کے ہمراہ تھا (یہ برداشت نہ کر سکا اور) جب مخدوم ہوش میں نہ آئے تو انہیں اسی حالت میں وہاں چھوڑ کر ملتان چلا آیا اور تمام کیفیت شیخ المسلمین حضرت شیخ بہاء الدینؒ کی خدمت میں مفصل طور پر عرض کی۔ شیخ بہاء الدینؒ نے اس احقر (مخدوم عالم) کو مخدوم عبدالرشیدؒ کو لانے کے لئے شیخ عبداللہ کے ہمراہ رواں کیا۔ حسب الحکم روانہ ہوئے اور ایک مدت کے بعد عار پر پہنچے۔ مخدوم اسی طرح عالم تحریر میں مدہوش تھے۔ ان کے پہنچنے ہی ہوش میں آگئے۔ حال احوال پوچھنے کے بعد آنے کی وجہ دریافت کی۔ عرض کیا کہ آپ کے عمراؤ حضرت بہاء الدینؒ زکریا نے اس غلام کو آپ کو ملتان لانے کے لئے بھیجا ہے۔ اب آگے جو آپ کا حکم ہو بندہ بجا لائے گا۔ مخدوم عبدالرشیدؒ محلے سے اٹھے (ص ۲۵ ب) اور اس

احقر کے ہمراہ جانب ملتان روانہ ہوئے۔ مخدوم راہ میں جذب و شوق اور حیرت و محویت کے عالم میں مستغرق رہے۔ بخیر و عافیت ملتان پہنچے۔ شیخ بہاء الدینؒ اور تمام بھائیوں سے ملاقات کی۔ چند روز کے بعد شیخ بہاء الدینؒ نے فرمایا کہ اے بھائی! یہ ملک و سلطنت اور خزانے سب آپ کی ملک ہیں۔ انہیں حساب کتاب کر کے اپنے قبضے میں لیجئے کہ ہم تو محض امین تھے۔ مخدوم عبدالرشیدؒ نے جواب دیا کہ میں مرشد کامل کے حکم سے ترک دنیا کر چکا ہوں مجھے آبادی کی نسبت جنگل ویرانہ اچھا لگتا ہے۔ یہ سب ملک و اسباب اور خزانے آپ کے ہیں۔ شیخ بہاء الدینؒ نے فرمایا کہ ہمیں یہ قبول نہیں۔ آخر بحث مباحثے کے بعد یہ طے پایا کہ تمام مال و اسباب خزانے اور جائداد آپس میں اس طرح بانٹ لی جائے کہ کسی کا حق دوسرے کے ذمے نہ رہ جائے۔ دریائے راوی کے پاس قرعہ اندازی ہوئی۔ دریائے راوی کے مشرق کا علاقہ مخدوم عبدالرشیدؒ کے حصے میں آیا۔ جبکہ مغرب کی زمین شیخ بہاء الدینؒ کو ملی۔ دیگر مال و اسباب کو نصف نصف تقسیم کر لیا گیا۔ ایک کروڑ اشرفی اور نقد و جنس ہر ایک کے حصے میں آیا۔ مخدوم عبدالرشیدؒ نے تمام نقد و جنس اللہ کی راہ میں درویشوں اور مسکینوں کے لئے وقف کر دیا۔ یہاں تک کہ نان شبینہ کے لئے بھی کچھ باقی نہ بچا۔ آپ نے راوی کے دوسرے کنارے پر حجرہ بنا لیا (ص ۱۲۶) اور عبادت حق میں مشغول ہو گئے۔ ہر آٹھویں روز حضرت شیخ بہاء الدینؒ اپنے بھائی مخدوم عبدالرشیدؒ کی ملاقات کے لئے تشریف لے جاتے۔ ایک روز دوران گفتگو میں شیخ بہاء الدینؒ نے فرمایا کہ اے برادر! تمہارے بہت سے متعلقین اور بھائی بند ہیں۔ تمہارے لئے ضروری ہے کہ کسی ایسی جگہ سکونت اختیار کرو جہاں سب کو آرام ملے۔ مخدوم عبدالرشیدؒ نے جواب دیا کہ ہم نے ملتان سے دس کوس کے فاصلے پر بجانب مشرق دو ٹالوں کے درمیان قوم مڑل (۶۸) کے دو افراد ابوالفتح اور تاج الدین سے ایک قطعہ زمین خریدا۔ یہ وہاں سکونت رکھیں گے آپ خاطر جمع رکھئے۔

نقل ہے کہ بزرگ کامل (ص ۲۶ ب) حضرت مخدوم عبدالرشیدؒ خفانی القریؒ الاسدی (A-۲۸) دریائے راوی کے کنارے واقع حجرے سے مع متعلقین و مال و اسباب مڑلوں سے خریدی ہوئی زمین کی طرف روانہ ہوئے۔ شیخ الاسلام والمسلمین شیخ

بہاء الدین مع صاحبزادگان اور شیخ فرخ (مخبر الدین عراقی (۶۹) اور مخدوم سید جلال الدین بخاری آپ کو حلقین و اسباب سمیت وہاں تک پہنچانے آپ کے ہمراہ گئے۔ مخدوم عبدالرشید اپنی خرید کردہ زمین پر سکونت پذیر ہوئے اور شیخ المسلمین بہاء الدین چند روز وہاں ٹھہرنے کے بعد واپس رخصت ہوئے۔ شیخ ابوبکر اور شیخ محمد چند کوس تک آپس کو واپس چھوڑنے آئے۔

حضرت مخدوم عبدالرشید نے اپنی خریدی ہوئی زمین میں مروانہ اور زنانہ حصوں پر مشتمل مکانات تعمیر کرائے اور ان کے گرد قلعے کی طرح فصیل بنوائی۔ خود کاشتکاری کا پیشہ اختیار کیا۔ دریائے راوی سے زمینوں تک ایک چوڑا ٹالہ شکل دریا کھدوایا۔ تمام زمین سیراب اور آبلو ہو گئی۔ آپ نے اپنے متوسلین میں سے ہر ایک کو زمین تقسیم کر دی کہ سب آزادانہ کاشتکاری کریں۔ آپ دن رات عبادت و ریاضت میں مشغول رہنے لگے۔

نقل ہے کہ ابو الفتح اور تاج الدین کی وفات کے بعد (ص ۱۲۷) ان کے بیٹوں علی اور شہ علی نے مخدوم صاحب پر زمین کی قیمت کا دعویٰ کر دیا۔ اس کا کتنا تھا کہ یہ قیمت ہمیں ابھی تک نہیں ملی۔ چنانچہ انہوں نے عتلا اور جھکڑے کی راہ اختیار کی۔ ہر چند مخدوم صاحب نے انہیں نصیحت کی ان پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ دن رات جھکڑا کرتے رہتے تھے۔ جب نصیحت کرنے والوں کی نصیحت ان دونوں بھائیوں پر کارگر نہ ہوئی تو مخدوم صاحب نے فرمایا کہ جاؤ، دونوں بھائی ہمارے محلے کے نیچے سے اپنی زمین کی قیمت کے برابر رقم گن کر لے لو۔ جب انہوں نے حجرے کے اندر جا کر معلی اٹھایا انہیں زر سرخ (دندانوں) کا ایک ڈھیر نظر پڑا۔ بغیر گنے دینار سرخ اٹھائے اور گھر کو چل دیئے۔ حضرت مخدوم نے زمین کی جتنی قیمت ارشاد فرمائی تھی اس کے بقدر دینار تو ٹھیک رہے۔ باقی بچھوین گئے۔ حضرت مخدوم نے فرمایا کہ تم بد نیت ہو، ہماری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ۔ وہ دونوں بد بخت چند روز کے اندر اندر عسرت اور بھوک کے عذاب میں گرفتار ہو گئے۔ پھر انہیں آپ کی حیات مبارک کے دوران میں آپ کے حضور آنے کا موقع نہ ملا۔ موت کے بعد بھی ان بد بختوں کو قبرستان میں قبر کے لئے جگہ نہ ملی۔ یہاں تک کہ ان کی اولاد میں سے کسی کی میت کو

مخدوم صاحب کے قبرستان میں دفن کیا جاتا تو (قدرت) اسے قبر سے نکل کر دور ان کے علاقے میں پھینک دیتی۔ ابھی تک ایسا ہی ہوتا ہے۔

نقل ہے کہ مخدوم صاحبؒ نے کب حلال کے لئے زراعت کو اپنایا تھا۔ رعایا سے جو پیداوار کا دسواں حصہ بطور محصول لیا جاتا تھا آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ البتہ اگر کوئی خلوص و عقیدت کی بناء پر (ص ۲۷ ب) فصل بہ فصل حصہ پہنچاتا تو آپ اسے قبول فرماتے اور راہ خدا میں صرف کر دیتے۔ گمراہ لنگر کا خرچ اپنی کاشت کردہ زمین کی آمدنی سے چلاتے۔ اپنی کھل زیب تن ہوتا۔ دن رات روزے سے اور حالت استغراق و محویت میں رہتے، صرف اس وقت عالم ہوش میں آتے جب کوئی ہم مشرب ملاقات کے لئے آتا۔

نقل ہے کہ ایک دفعہ مخدوم عبدالرشیدؒ کے پہلو میں درد اٹھا۔ درد کے مارے سخت بے چین ہوئے۔ رات کے وقت حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی طرف رجوع کیا اور عرض پرداز ہوئے کہ یا رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) اس درد نے مجھے پریشان کر دیا ہے۔ جواباً ارشاد ہوا کہ تمہارے جسم میں ایک قطب کا نقطہ ہے اس کا اخراج مملکت (تعلق) شاہ (۷۷) دہلی کی دختر کے بطن میں ہو گا۔ جب تک یہ خارج نہیں ہو جاتا درد رفع نہیں ہو گا۔ مخدومؒ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بادشاہ میں فقیر یہ کس طرح ممکن ہے۔ حضورؐ کی عنایت ہو تو ہو سکتا ہے۔ بارگاہ رسالتؐ سے ارشاد ہوا کہ جن تمہارے تابع کر دیئے گئے ہیں انہیں ساتھ لے کر دہلی کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ جنوں نے تعمیل کی اور دہلی پہنچ کر بادشاہ تعلق کی آنکھوں میں سرایت کر گئے چنانچہ جو بھی کھانا بادشاہ کے سامنے پیش کیا جاتا غلاطت میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اس مصیبت سے بادشاہ کی جان لیوں پر آگئی۔ ایک ایچی شیخ الاسلام حضرت بہاء الدینؒ کی طرف دوڑایا کہ اس مملکت مشکل نے نجات دلائیں کیونکہ وہ شیخ المسلمین سے بڑی ارادت رکھتا تھا۔ جب ایچی ملتان پہنچا اور احوال عرض کئے (ص ۱۲۸) شیخ بہاء الدینؒ نے فرمایا کہ اس سخت مصیبت کا علاج براہِ مخدوم عبدالرشیدؒ ہی کریں گے۔ حضرت شیخ بہاء الدینؒ سوار ہو کر ایچی کے ساتھ مخدوم عبدالرشیدؒ کے پاس پہنچے۔ اس وقت وہ چالیس آدمیوں کی جماعت کے ساتھ

نہن میں مل چلا (کاشکاری کر) رہے تھے۔ اپنی اور شیخ بہاء الدینؒ نے آکر سلام کیا۔ حضرت محمدؐ نے کوئی جواب نہ دیا اور بدستور مل چلانے میں مصروف رہے۔ جب دوسرے پھیرے میں اپنی کے پاس پہنچے تو سلام کے جواب میں ولیکم السلام کہا اور رک گئے۔ اپنی نے عرض کیا کہ حضورؐ آپ تو احکام شریعت سے واقف ہیں۔ آپ نے فوراً ہی سلام کا جواب کہیں نہ دیا، تاخیر کا سبب کیا تھا؟ فرمایا میں یہاں موجود نہ تھا وہی گیا ہوا تھا۔ شاہ تعلق کے گھر کو آگ لگ گئی تھی اور اس کی صاحبزادی جو حکم الہی کے بموجب ہماری بیوی بننے والی ہے آگ میں گھر گئی تھی اس کو آگ سے رہائی دلا کر آ رہا ہوں سلام میں تاخیر کا باعث یہی ہے۔ اپنی یہ سن کر بہت حیران ہوا اور اس نے دن، تاریخ، وقت اور واقعہ کی مفصل کیفیت تحریر کر کے قاصد کو دہلی روانہ کر دیا۔ شیخ المسلمین حضرت بہاء الدینؒ اور محمدؐ عبدالرشیدؒ نے مصافحہ کیا اور تمنا میں مصروف رازد نیاز ہوئے اس مسئلے کے بارے میں کچھ سوچنا چاہئے۔

آخر باہم مشورے سے دونوں بھائیوں نے جانب دہلی کوچ کیا۔ اوپر چدرہ دن کے بعد قاصد دہلی سے واپس آیا (ص ۲۸ ب) اور اس مصومہ مستورہ کے آگ میں گھر جلنے کی کیفیت بیان کی کہ اہل خانہ نے گواہی دی کہ ایک پشمینہ پوش فقیر نے اسے آگ کے محاصرے سے نجات دلائی تھی۔ اپنی اس واقعے سے آپ کا معتقد اور مرید ہو گیا۔ جب ہر دو مشائخ دہلی کی طرف سفر کرتے ہوئے لاہور پہنچے تعلق بادشاہ کی وہ تکلیف دور ہو گئی۔ اس نے لاہور میں آکر شیخ علیہ الرحمۃ کی خدمت میں عرض کی کہ آپ کے دہلی کی طرف رخ کرنے کی وجہ سے جنوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا ہے۔ جب آپ دہلی کے قریب پہنچے تو تمام امراء و وزراء آپ کے استقبال کے لئے حاضر ہوئے۔ آپ نے سلطان تعلق کے محل میں قیام فرمایا۔ حضرت شیخ بہاء الدینؒ نے بادشاہ کی صاحبزادی کے محمدؐ سے نکاح کے بارے میں درخواست کی۔ بادشاہ نے چار و ناچار اسے قبول کیا جمعہ کی رات نکاح پڑھا گیا۔

کہتے ہیں کہ ملکہ نے خواہش ظاہر کی کہ وہ اپنی لڑکی کے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہے۔ چنانچہ جب آپ گھر میں داخل ہوئے اور ملکہ نے دیکھا کہ آپ بہت معمر اور ضعیف ہیں اور لڑکی نہایت کم عمر تو اسے بہت دکھ ہوا اور اس نے غصے میں آگ سے بھری

ہوئی انجیٹھی اٹھا کر شیخ کے سر اور لباس پر الٹ دی۔ (ص ۱۲۹) تمام انگارے جو اہر و موارید بن گئے اور سب انہیں چننے کے لئے ٹوٹ پڑے۔

ملکہ اپنے کئے پر نادم ہوئی اور آپ کی معتقد ہو گئی۔ شیخ دو تین ماہ وہاں ٹھہرے۔ اس کے بعد مع زوجہ محترمہ و سلمان شاہانہ رخصت ہوئے اور بخیر و عافیت ملتان تشریف لے آئے۔ مخدوم صاحب کو اپنی مستورہ شہزادی معظمہ خاتون سے بڑی محبت تھی۔ جب کبھی عالم صحو (ہوش) میں آتے تو اہلیہ سے فرماتے کہ تمہارے بطن سے ایک فرزند تولد ہو گا جس کا نام لوح محفوظ میں مخدوم حسن لکھا ہوا ہے۔ مرتبے کے لحاظ سے وہ قطب الاقطاب ہو گا اور بے شمار درویش اس کی بدولت درجہ ولایت پر فائز ہوں گے۔ ایک سال کے بعد ۲۷ رمضان المبارک کی شب کے دوسرے پہر اس نیک بی بی کے بطن سے بیٹا تولد ہوا جس کا نام مخدوم حسن رکھا گیا۔ تین دن تک بچے نے چھاتی سے دودھ نہ پیا اور روزہ رکھا۔ شوال کا چاند نظر آنے پر روزہ اظہار کیا۔

کہتے ہیں کہ اس مخدوم زاوے کے سر کے بل نورانی شعلے سے روشن شیخ کی طرح چمکتے تھے۔

آپ ہر ماہ تین دن روزہ رکھتے تھے۔ دودھ نہیں پیتے تھے اور دن رات ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ جب چار سال کے ہوئے تو انہیں قرآن و حدیث کے عالم کامل کے سپرد کر دیا گیا۔ پانچ سال کی مدت میں (ص ۲۹ ب) آپ نے قرآن و حدیث کا پورا علم حاصل کر لیا اور نو سال کی عمر میں آپ مکمل عالم بن گئے یہاں تک کہ ملک کا کوئی عالم بحث و مباحثے میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ صاحب وجد و رقص اور کشف و کرامات میں لاثانی تھے۔ والد بزرگوار سے ہمیشہ کسب فیض کرتے۔ روز بروز آپ کے مراتب بلند سے بلند تر ہوتے جاتے تھے۔

کہتے ہیں کہ ایک دن مخدوم عبدالرشید حجرے میں تشریف فرما تھے کہ قاصد حضرت شیخ بہاء الدین کا خط لایا۔ لکھا تھا کہ لعل شہباز (۷۱) بڑی جماعت کے ساتھ آئے ہیں اور انہوں نے ملتان کا محاصرہ کر لیا ہے۔ کرامات کے طور پر شیر پر سوار نواح ملتان میں پھر رہے ہیں، شہر کے باشندے ان کے ہاتھوں تباہ حال ہیں لعل شہباز قاضی

قلب کا شانی (۷۱) کی صاحبزادی کا رشتہ طلب کرتے ہیں آپ ضرور بر ضرور یہاں تشریف لائیں۔ مخدوم عبدالرشید نے اپنے تینوں فرزندوں کو بلا کر حکم دیا کہ جلد تیار ہو کر چچا کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ محمد حسن (۷۳) نے عرض کیا کہ حضور! اس غلام کو حکم دیں اور خود یہیں تشریف رکھیں بندہ بفضل خدا قہیل کرے گا۔ مخدوم صاحب نے فرزند کے سر پر بوسہ دیا اور انہیں تیل پر سوار کر کے دعا دی کہ جاؤ تمہیں خدا کے سپرد کیا۔ (ص ۱۳۰) مخدوم حسن ملتان کی طرف روانہ ہوئے۔ دریائے راوی کے کنارے پہنچے تو حضرت لعل شہباز کی سواری آگئی۔ حضرت موصوف نے نور باطن سے معلوم کر لیا کہ مخدوم عبدالرشید کے فرزند ہمارے مقابلے پر حضرت شیخ بہاء الدین کے محمد معاون بن کر آرہے ہیں ان کا مقابلہ ہمیں کر لینا چاہئے کہ آگے ہجوم حد سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ لعل شہباز نے بلند آواز سے فرمایا کہ اے لڑکے! اپنے تیل کو راستے سے ہٹالے ورنہ یہ شیر اسے مار ڈالے گا۔ مخدوم حسن نے غصے سے کہا کہ اپنے شیر کو راہ سے دور کرو ورنہ یہ تیل اپنے سینگوں سے شیر کا پیٹ پھاڑ ڈالے گا۔ جواب میں لعل شہباز نے غصے سے چیخ و ناب کھاتے ہوئے شیر کو تیل پر حملے کے لئے دوڑایا۔ ادھر تیل سموں سے خاک اڑا رہا تھا۔ جب شیر تیل کے نزدیک پہنچا تیل نے حملہ کر دیا اور شیر کو سینگوں پر اٹھا کر اسے اتنے زور سے پھینکا کہ وہ لعل شہباز سمیت ملتان سے آٹھ کوس دور جاگرا۔

تمام لشکر بھاگ نکلا۔ لوگ سخت حیران ہوئے۔ مخدوم حسن جذب و مستی کے عالم میں ہجوم کے ساتھ شیخ بہاء الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ راستے میں ایک ہندو عورت بیٹھی گریہ و زاری کر رہی تھی۔ مخدوم زاہد نے پوچھا کہ ای عورت (ص ۳۰) (ب) کہیں روتی ہے؟ بولی ”میرے دونوں بیٹوں کو لعل شہباز نے زخمی کر دیا ہے اور زیادہ خون بہ جانے کی وجہ سے وہ قریب مرگ ہیں۔“ فرمایا ”میرے تیل کے سموں کی خاک لے کر اپنے بیٹوں کے زخموں اور منہ پر لگاؤ بفضل خدا تندرست ہو جائیں گے۔“ ہندو عورت نے ایسا ہی کیا۔ خدائے عزوجل نے دونوں کو صحت بخشی اور وہ آپ کے حلقہ بگوش ہو گئے۔ جناب مخدوم حضرت شیخ بہاء الدین کی خدمت میں پہنچ کر تسلیمات بجالائے۔ شیخ بہاء الدین نے مسد سے اٹھ کر مخدوم حسن کے سر پر بوسہ

دیا اور زبان مبارک سے فرمایا کہ اے فرزند! اللہ تعالیٰ کی جناب میں ایسی گستاخی مناسب نہیں۔ گھر لے گئے، دو تین دن اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد یہ فرما کر مخدوم عبدالرشیدؒ کی خدمت میں رخصت کیا کہ تیرا نام حسن بلا اقلن ہے۔

شیخ فرید الملت والدین حضرت شکر گنجؒ سے متحول ہے کہ ایک دفعہ میں اور میرا بھائی مخدوم عبدالرشیدؒ قلعہ ہانسی نار میں اکٹھے موجود تھے اور عبداللہ قوال یہ بیت گا رہا تھا۔

ترجمہ۔ جو شخص معبود حقیقی کے سراسر نزدیک ہے اس کی جان گویا ختم ہو گئی وہ بل سے بھی باریک ہو جاتا ہے۔

یہ سن کر برادر مخدوم عبدالرشیدؒ کو وجد آگیا۔ آپ رقص کرنے لگے اور کمال محویت کے عالم میں آسمان کی طرف پرواز کر گئے (ص ۱۳۱) میں نے ان کا دامن پکڑا اور انہیں واپس لے آیا۔ دوبارہ اڑے اور سات آسمان سے آگے گزر گئے۔ میں پھر ان کا دامن پکڑ کر انہیں واپس حجرے میں لے گیا۔ اس کے بعد میں نے اشارے سے عبداللہ قوال کو خاموش کیا۔ تجلی عشق کا شعلہ آپ کے سر سے نکلا جس سے حجرہ رات کی تاریکی میں دن کی طرح منور ہو گیا۔ ایک دن اور رات آپ اسی عالم استغراق میں رہنے کے بعد ہوش میں آگئے۔

شیخ فرید الدین شکر گنجؒ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اور برادر مخدوم عبدالرشیدؒ اکٹھے بیٹھے تھے۔ مجاہدے کا ذکر چل نکلا۔ مخدومؒ نے فرمایا کہ میرا کترین مجاہدہ یہ ہے کہ تیس سال سے میں نے صرف ایک گھونٹ پانی سے ہر ساتویں دن کے بعد روزہ افطار کیا ہے۔ اس طرح ان تیس سالوں میں میں نے صرف ایک پیالہ پانی پیا اور ایک اٹار جو کا آنا کھلایا ہے اس مدت میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں کھڑا رہا اور مجھے کسی قسم کا ضعف نہیں ہوا۔

شیخ فرید الدین شکر گنجؒ رحمۃ اللہ علیہ سے متحول ہے کہ ایک دفعہ برادر مخدوم شیخ بہاء الدینؒ اور میں ملتان میں یکجا تھے۔ مجاہدہ و ریاضت کے بارے میں ذکر ہوا۔ شیخ نے فرمایا کہ میرے بھائی مخدوم عبدالرشیدؒ کا درجہ قرب الہی میں اتنا بلند ہے کہ میں اس

محلے میں ان کی برابری کا یارا نہیں رکھتا۔ ”وہ اللہ کے بہت قریب ہے اور اللہ اس کے بہت قریب“۔ چنانچہ میرے بھائی کے جسم و جان میں ایک بل برابر جگہ بھی ماسوئی اللہ کے لئے نہیں ہے جو کچھ بھی آپ کے جسم سے خارج ہوتا ہے تر سے خالی نہیں۔

نقل ہے کہ ایک دفعہ آپ کی پیٹھ میں درد ہوا۔ رات کے وقت حضرت سرور کائنات خلائق موجودات کی خدمت میں رجوع کیا۔ (ص ۳۱ ب) ارشاد ہوا کہ اے مخدم عبدالرشید تمہارے صلب میں قلب طانی ہے اور اس کا اخراج رائے الوذی (۷۴) کی صاحبزادی کے بطن سے ہو گا، جا اور اس سے نکاح کر۔ جب ایسا ہو گا تمہاری پیٹھ کا درد دور ہو جائے گا۔ حضرت مخدم یہ ارشاد سن کر قلعہ راج گڑھ (۷۵) کی طرف تشریف لے گئے اور رائے الوذی کے پاس پہنچے۔ رائے الوذی آواب بجا لایا۔ آپ کو حرم سرا کے اندر لے گیا۔ آپ نے چند روز وہاں قیام کے بعد نکاح کے بارے میں بات کی۔ رائے الوذی نے عرض کیا کہ بندہ فریادار ہے لیکن چونکہ حضور بہت ضعیف ہیں آپ کی عمر سو سال کے قریب ہے اور لڑکی کم سن ہے میرے بیٹے ابو صلح اور سارنگ اس رشتے میں مانع ہیں۔ آپ پہلے انہیں راضی کر لیجئے۔ مخدم صاحب نے دونوں بھائیوں کو بلایا اور معاملہ بیان فرمایا۔ سارنگ نے جواب دے دیا اور ابو صلح نے اس کی تائید کی کہ اگر آپ باقی عمر میں رہ کر یاد خدا میں گزاریں اور اس غلام کو خدمت گزاری کا موقع ملے تو ہم راضی ہیں۔ مخدم صاحب نے فرمایا کہ عقد نکاح کے بعد اقرار باللسان و تصدیق بالقلب (یعنی منظور ہے) لیکن نکاح سے پہلے میں واپس جاؤں گا۔ ابو صلح نے عرض کیا کہ بندہ زمیندار ہے اور شادی کے موقع پر قرب و جوار کی رعایا اور شرفاء کو مدعو کرنا ہے لہذا حضور بھی پوری شان و شوکت اور لاؤ لشکر کثیر کے ساتھ تشریف لائیں۔ (ص ۱۳۲) حضرت مخدم ۶ شادی کی تاریخ مقرر کرنے کے بعد گھر واپس آگئے۔ آپ نے اپنے فرزندوں مخدم ابوبکر، مخدم محمد اور مخدم حسن کو صورت حال سے آگاہ کیا۔ شیخ بہاء الدین کو بھی لکھ بھیجا کہ اپنے صاحبزادوں سمیت اس کارخیر میں شریک ہونے کے لیے تشریف لے آئیں۔ شیخ بہاء الدین نے شیخ علاء الدین، شیخ قدوة الدین اور جمال درویش کو روانہ

فرمایا۔ مخدومان ابو بکر، محمد اور حسن نے جواب دیا کہ ہم اپنی ماؤں کی آزرگی برداشت نہیں کر سکتے آپ خود جا کر نکاح کر لیجئے۔ آخر مخدوم عبدالرشیدؒ بھتیجیوں سمیت قلعہ راج گڑھ کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کل چار نفر وہاں گئے۔ ابو صالح بہت آزرہ خاطر ہوا کہ ہم نے تو ہزار آدمیوں کے لئے کھانے اور گھوڑوں کے لئے گھاس دانے کا انتظام کیا ہے اور آپ صرف چار آدمیوں کے ہمراہ تشریف لائے ہیں ہمارا یہ تمام سامان ضائع ہو جائے گا۔ مخدوم صاحبؒ نے فرمایا کہ جس قدر کھانا دانا ہے سب اکٹھا کر کے لے آئیں۔ جب لے آئے تو مخدوم نے تمام گھاس اور دانہ ٹھکیرے تیل کے آگے ڈال دیا اور سارے کا سارا کھانا جمال درویش کے سامنے رکھ دیا۔ دونوں سب کچھ کھا گئے اور پھر بھی سیر نہ ہوئے۔ اس کے بعد سعد گھڑی میں نکاح ہوا تو آپ نے برادر زادوں اور جمال درویش کو سات دن ہمراہ رکھ کر رخصت کر دیا (ص ۳۲ ب) اور خود حسب وعدہ وہیں سکونت اختیار کر لی۔ مسجد اور حجرہ تعمیر کرایا اور یاد حق میں مشغول ہو گئے۔

نقل ہے کہ جب شادی ہو چکی تو ایک دن سارنگ نے سوچا کہ یہ فقیر نہایت ضعیف ہونے کی وجہ سے ہمارے اور ہماری ہمیشہ کے لئے باعث عار ہے، رات کو حجرے میں میں کیوں نہ اسے مار ڈالوں۔ مخدوم صاحبؒ کو کشف باطن سے اس کے اس برے ارادے کی خبر ہو گئی۔ آپ نے سارنگ کو بلایا اور کہا کہ آج کے بعد تیرے نصیب میں سرداری نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ریاست کی خلعت ابو صالح کو عطا کر دی ہے، اب تم جاؤ اور باقی زندگی درویشوں کے ساتھ بسر کرو۔ اس روز سے سارنگ فقیر ہو کر درویشوں کے حلقے میں شامل ہو گیا اور ملک چھوڑ گیا۔ سرداری کی خلعت ابو صالح کو نصیب ہوئی۔ وہ دن رات آپ کی خدمت میں کمر بستہ حاضر رہتا۔ مخدوم عبدالرشیدؒ سات سال قلعہ راج گڑھ میں (بحالت خانہ دانا) رہے۔

شادی کے ایک سال بعد سات شعبان ۶۳۵ھ شب جمعہ حضرت مخدومؒ کے ہاں فرزند تولد ہوا جس کا چہرہ مثل آفتاب روشن تھا۔ شیخ صدر الدین نام رکھا گیا۔ بچپن ہی میں سات آسمانوں اور سات زمینوں کی خبر دتا تھا۔ سات سال کی عمر تک حضرت مخدومؒ اور دیگر اساتذہ سے تمام علوم شریعت حاصل کر لئے۔ قرآن مجید کو سات

اسی اثناء میں ایک دن حضرت مخدومؒ نے اپنے سرال والوں سے یہ کہہ کر وطن جانے کی اجازت طلب کی کہ شیخ صدرالدین کی موتراشی (۷۶) کرنی ہے (ص ۱۳۳) اور یہ رسم اپنے بھائی بندوں کے درمیان وہیں ادا ہوگی۔ ابوصالح نے عرض کیا کہ حضرت مختار ہیں البتہ ہم نے جو اشیاء اپنے بھانجے کے نام کی ہیں وہ ہم سے لے لیجئے۔ مخدومؒ نے فرمایا کہ ہم نے دنیا ترک کر دی ہے ہمیں مال و دولت دنیا سے کوئی واسطہ نہیں۔ ابوصالح نے عرض کیا کہ بندہ جو کچھ دے رہا ہے وہ برخوردار صدرالدین کی ملکیت ہے وہ جو مناسب سمجھیں کریں۔ آخر کار ابوصالح نے گھوڑے، بھینسیں، گائیں، بھیڑ بکریاں، اونٹ، اونٹیاں وغیرہ چوپائے، ریشمی اور اوننی کپڑے، زیورات، نقدی اور آباد مواضع غرض ہر چیز کا تیسرا حصہ تقسیم کر کے حوالے کیا۔ مخدوم صاحب مع قبائل وہاں سے اٹھ آئے اور اپنے حصے کی زمین میں قلعہ تعمیر کر کے اس کا صدرالدین پور نام رکھا۔

حضرت صدرالدینؒ کی والدہ ماجدہ نہایت قائل اور عاقل خاتون تھیں اور وہ مال و اسباب اور زمینوں کی ہر طرح سے دیکھ بھال کرتی تھیں۔ حضرت مخدوم صاحبؒ دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔

نقل ہے کہ حضرت مخدوم عبدالرشیدؒ دو سال تک قلعہ صدرالدین پور (۷۷) میں قیام کے دوران میں کھیتی باڑی کرتے رہے۔ ایک دن مخدوم صاحب حجرے کے باہر بیٹھے تھے کہ قوم بٹ (۷۸) کے دو افراد رائے دیون اور رائے جیون جو راجہ جیسل کی اولاد سے تھے آکر قدم بوس ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہم حضرت مخدوم سید جلال الدین بخاریؒ کے مرید ہیں۔ انہوں نے ہمیں بد دعا دی ہے جس کی وجہ سے ہمیں گوز کی بیماری ہے۔ اس مرض سے نجات پانے کے لئے ہم حضرت شیخ بہاء الدین زکریاؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے (ص ۳۳ ب) انہوں نے حضرت سید جلال الدینؒ کے پاس خاطر سے دعا نہیں کی اور فرمایا کہ تم ہمارے بھائی مخدوم عبدالرشیدؒ کی خدمت میں جاؤ وہ تمہارے حق میں دعا کریں گے اور تمہیں صحت ہو

جائے گی۔ اس لئے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت مخدوم صاحبؒ نے دعا کی جو قبول ہوئی اور قوم عٹہ کے ان افراد سے یہ بیماری دور ہو گئی۔ بعد میں سید جلال الدین بخاری تشریف لائے اور قوم عٹہ سے اس بیماری کے رفع ہونے کی طرف (شکایت کے لہجے میں) توجہ دلائی۔ مخدوم صاحبؒ سوچ میں پڑ گئے۔ پھر شیخ صدرالدین کو بلا کر عرض کیا کہ اس غلام زادے کو اپنے مریدوں کے سلسلے میں داخل کر کے سرفراز فرمائیے۔ سید جلال الدین نے عذر پیش کیا کہ بندہ آل اولاد سمیت آپ کے خاندان کا مرید ہے سوہ اوب ہو گا اگر میں یہاں پیر بن بیٹھوں۔ مخدوم صاحبؒ نے فرمایا کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں درست ہے لیکن بہر حال ہم نے مخدوم صدرالدین کو مع اولاد حضور کا مرید کر دیا ہے۔ چنانچہ حضرت سید جلال الدین نے شیخ صدرالدین کو مرید بنا لیا۔ ان کے سر کے بال کاٹے، خلعت عطا فرمایا اور شیخ نے سید جلال الدین کی خدمت میں نذر نیاز پیش کی۔ شیخ صدرالدین اٹھے اور ہاتھ باندھ کر اپنے پیر سے یہ عرض کی کہ یا پیر یہ قوم عٹہ اپنے اس ستے مرید کو عطا کر دیجئے حضرت سید الابرارؒ نے یہ قوم عٹہ شیخ صدرالدین کو بخش دی اور رخصت ہوئے۔ بعد میں رائے دیون شیخ صدرالدین کے مرید ہو گئے اور اپنے بھائی رائے دیون کو بچہ واہن (۷۹) کی طرف روانہ کیا (ص ۱۳۳) کہ وہ تمام عٹہ قوم کو وہاں سے اٹھا کر لے آئیں تاکہ وہ باقی تمام عمر پیر کی خدمت میں رہ کر گزار دیں۔

چنانچہ بھٹوں کی تمام قوم آگر شیخ صدرالدین کی مرید اور مشرف باسلام ہوئی۔ انہوں نے ویران زمین میں دیہات بسا کر کاشتکاری شروع کر دی اور موضع کا نام صدر پور رکھا۔

حضرت مخدوم عبدالرشیدؒ کی ماڑی رشید پور میں آمد (۸۰)

نقل ہے کہ مخدوم عبدالرشیدؒ شیخ صدرالدین کی موتراشی کے قصد سے مع اہل وعیال ماڑی رشید پور کے لیے تیار ہوئے۔ گھوڑے اور شیردار بھینس ساتھ لے لیں۔ جب ماڑی رشید پور پہنچے تو تمام صاحبزادوں نے حاضر ہو کر قدم پوسی کی اور شیخ

صدرالدین کے بل موٹنے کی رسم کی تاریخ مقرر کی۔ مخدوم شیخ ابوبکر کو حضرت شیخ بہاء الدین کی خدمت میں اطلاع دینے کے لئے بھیجا گیا۔ شیخ بہاء الدین تمام صاحب زادوں سمیت تشریف لائے، ایک دوسرے سے مصافحہ کیا، موزاشی کی رسم ادا کی گئی۔ رسم انجام پاگئی تو حضرت شیخ بہاء الدین نے فرمایا کہ بھائی آپ ایک مدت سے پردیس میں ہیں اور اوہر ہم آپ کے حالات سے بے خبر ہیں۔ ضروری ہے کہ آپ باقی عمر ہمیں بسر فرمائیں۔ مخدوم صاحب نے قبول فرمایا۔ شیخ بہاء الدین رخصت ہو کر ملتان تشریف لے گئے اور حضرت مخدوم عبدالرشید نے ماڑی رشید پور میں مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ ایک سال کے بعد انہوں نے تمام مال و اسباب اور موٹی گھوڑے اونٹ جو شیخ صدرالدین کی ملکیت تھے منگوا بیچے۔ جب سب کچھ پہنچ گیا تب اس قدر زیادہ مال و دولت دیکھ کر (ص ۳۳ ب) مخدوم ابوبکر اور مخدوم محمد کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس ضمن میں کچھ باہم تکرار بھی ہوتی تھی۔

اسی اثنا میں مخدوم ابوبکر فوت ہو گئے۔ حضرت مخدوم فاتحہ خوانی کے لیے تشریف لے گئے اور سلطان ایوب قتل کے سر پر والد کی دستار رکھی۔ اس وقت ان کی عمر سات سال تھی۔ مخدوم لعل حافظ اور مخدوم یعقوب ان سے چھوٹے تھے۔ تینوں بھائیوں کی پرورش جدہ بزرگوار نے کی کیونکہ ان کی والدہ ان کے والد مخدوم ابوبکر سے پہلے وقت پا چکی تھیں۔

قتل ہے کہ حضرت مخدوم صاحب نے اہل و عیال سمیت وہیں رہائش اختیار کر لی۔ شیخ صدرالدین کا مال و دولت دیکھ کر مخدوم ابوبکر نے (دراصل مخدوم محمد نے کیونکہ مخدوم ابوبکر تو فوت ہو چکے تھے) حسد کی بنا پر شہر میں متاوی کرا دی کہ کوئی شخص شیخ صدرالدین کے موٹی چرانے کے لیے نہ آئے۔ چونکہ ان کی سرداری کا حکم چلتا تھا گاؤں اور پھڑے کسی محافظ کے نہ ہونے کی وجہ سے آوارہ ہو گئے۔ حضرت مخدوم عبدالرشید نے سلطان ایوب قتل سے کہا کہ مخدوم صدرالدین کے موٹی تم چرا دیا کرو۔ سلطان ایوب قتل مال چرانے جنگل میں لے گئے وہاں پیاس نے تنگ کیا۔ گھر آکر جدہ بزرگوار سے عرض کیا کہ پیاس بہت تنگ کرتی ہے۔ فرمایا آج ایک شخص تمہیں پانی پلانے آئے گا (ص ۱۳۵) اطمینان رکھو۔ جب دوسرے دن سلطان ایوب

قالؔ موسیٰ چرانے گئے تو پھر پیاس لگی۔ دوسرے کو ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ اتنے میں ایک نورانی شکل بزرگ نے آکر مخدوم زاوے کو نیند سے بیدار کیا اور پانی پلایا اور کہا کہ میں حاضر ہوں جد بزرگوار کو میرا سلام کہنا۔ جب وہ بزرگ روپوش ہو گئے تو مخدوم زاوے پر فرش سے عرش تک کے حجاب اٹھ گئے اور ان پر مستی کی حالت چھا گئی۔ مال اکٹھا کر کے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ (زمین و) آسمان میں جو کچھ نظر آتا تھا اعلانیہ بیان کرتے جاتے تھے۔ حضرت مخدوم صاحبؒ کو بذریعہ کشف معلوم ہو گیا۔ استقبال کے لئے تشریف لے گئے، سلطان ایوبؒ کو حالت مستی میں دیکھا۔ زبان مبارک سے پاس بلایا اور اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور اپنی دستار مبارک سلطان ایوبؒ کے سر پر رکھ دی۔ مخدوم زاوہ ہوش میں آئے اور خاموش ہو گئے۔ شہر میں پہنچے۔ مخدوم عبدالرشیدؒ اگلے دن علی الصبح مخدوم صدرالدین کو ان کی والدہ اور مال موسیٰ سمیت صدرالدین پور کی طرف رخصت فرمایا اور خود مخدوم صاحبؒ نے ماڑی رشید پور میں اپنے تینوں پوتوں کے ساتھ سکونت اختیار کر لی۔

قصہ وصال حضرت مخدوم سلطان عبدالرشیدؒ

نقل ہے کہ مخدوم صاحبؒ دن رات حجرے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ سلطان ایوبؒ آپکی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ دو سال گزر گئے۔ آپ نے اپنے جد بزرگوار سے اس قدر فیض اور فتوحات غیبی حاصل کیں (ص ۳۵ ب) کہ وقت کے قطب بن گئے۔ ایک دن حضرت مخدومؒ یاد حق میں مصروف تھے کہ ایک شخص دروازے پر آیا۔ اس نے پوچھا کہ عبدالرشیدؒ کہاں ہے؟ سلطان ایوبؒ نے جواب دیا کہ حجرے کے اندر عبادت کر رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ نیاز ہو کا یہ پھول ان کی خدمت میں پہنچا دو۔ مخدوم زاوے نے وہ پھول آپ کے دست مبارک میں دیا۔ مخدوم صاحبؒ نے اسے سو گنھا۔ خدائے واحد کی بارگاہ میں دور رکعت نماز ادا کی اور سجدے میں جان جان آفرین کے سر دکر دی۔ جبینہ و کفین کے بعد آپ کو اسی حجرے کے دروازے پر دفن کیا گیا۔ سن ۶۱۹ھ میں 'انا للہ وانا الیہ راجعون' ○

سلطان ایوب قتلِ قدس اللہ سمرہ

جب مخدوم عبدالرشید فوت ہو گئے تو سلطان ایوب قتلِ وادا کے محلے پر بیٹھے۔ آپ کے چچا مخدوم محمد اور مخدوم حسن آپ سے حسد کرنے لگے۔ اگرچہ سلطان ایوب قتلِ چچاؤں کی فرمانبرداری کرتے تھے مگر ان کے دل سے رنجش نہ گئی۔ مخدوم عبدالرشید کی زندگی ہی میں سلطان ایوب کی منگنی بی بی فاطمہ دختر سید ایوب ماجینی سے ہو چکی تھی۔ سید ایوب نے فرمایا کہ آپ کا گزارہ اپنے چچاؤں کے ساتھ نہیں ہو پا رہا۔ یہاں تشریف لے آئیں کہ یہ بھی آپ ہی کا گھر ہے (ص ۱۳۶) سلطان ایوب نے مخدوم محمد اور مخدوم حسن سے اس بارے میں مشورہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے وہاں جانے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ تم مختار ہو۔ ان کی اس بات سے مخدوم سلطان ایوب مایوس ہوئے اور ایوب ماجینی کے پاس چلے آئے۔ سلطان ایوب دن رات اللہ تعالیٰ کی یاد میں غرق رہتے۔ کھانے پینے کا بھی ہوش نہ تھا۔ جب اسی طرح دو سال گذر گئے تو شیخ ایوب ماجینی کے بیٹوں شیخ سلیمان اور شیخ عبدالعزیز نے از روئے حسد کہا کہ یہ شخص بالکل نکما ہے اس سے منگنی توڑ دینی چاہئے۔ سید ایوب نے فرمایا کہ میں نے مخدوم عبدالرشید سے اس رشتے کا اقرار کیا تھا اب کس طرح جواب دوں۔ ایک تو یہ شرط مردانگی کے خلاف ہے۔ دوسرے قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا۔ اب اگر یہ نکما ہے تو بھی قبول ہے۔ چنانچہ نکاح کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے غم و غصہ کی بنا پر کہا کہ آپ اپنے داماد کو لے کر علیحدہ ہو جائیں اور ہم آپ سے الگ رہیں گے۔ سید ایوب راضی ہو گئے۔ انہوں نے زمین کو تقسیم کر دیا۔ بیٹوں کا حصہ بیٹوں کے حوالے کیا اور اپنے حصے کی زمین کی کاشتکاری پر سلطان ایوب قتل کو نگران مقرر کیا۔ چونکہ سلطان ایوب سارا دن اللہ تعالیٰ کی یاد میں محو رہتے پرندے (انہیں غافل پا کر) خوشوں پر حملہ آور ہوتے اور انہیں خالی کر دیتے۔ (ص ۱۳۶ ب) ایک دن شیخ سلیمان والد کے کھیتوں کی طرف سے گذر رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بے شمار پرندے فصل کے خوشے کھا رہے ہیں اور سلطان ایوب مراتبے میں بیٹھے یاد الہی میں مشغول ہیں۔ انہوں نے حقیقت حال والد کو بتائی۔ سید ایوب غصے کی حالت میں اپنے کھیتوں کی طرف گئے۔ دیکھا کہ مخدوم سلطان مراتبے میں ہیں اور بے شمار

پرندے کھیت چک رہے ہیں۔ نزدیک جا کر ایک سخت طمانچہ سلطان ایوبؒ کے منہ پر مارا اور کہا کہ تالائق! تو نے میری کھتی برباد کر دی۔ سلطان ایوبؒ نے پوچھا کیا کروں۔ اس نے کہا کیا تو ہا ہا بھی نہیں کر سکتا۔ سلطان ایوبؒ نے تین بار ہا ہا کیا (سننے میں آیا ہے کہ پہلی ”ہا“ پر پرندے اور دوسرے ہا پر کھتی اڑ گئی تیسری پر زمین کلنے لگی۔ مترجم) سید ایوب ماجینی نے مخدوم ایوبؒ کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ مجھے تو برباد کر دیا ساری دنیا کو تو تباہ نہ کرو۔ دونوں حضرات کھیتوں کی طرف سے گھر واپس آئے۔ سلطان ایوبؒ نے اپنی اہلیہ سے کہا کہ اگر ماں باپ کے گھر رہنا چاہو تو تمہیں اختیار ہے ورنہ فوراً میرے ہمراہ چل پڑو کہ یہاں اللہ کا غضب نازل ہوا چاہتا ہے۔ الغرض بی بی کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ کسی نے انہیں نہ روکا۔ جب شر سے باہر آئے تو اہلیہ محترمہ نے دیکھا کہ ان کا بھتیجا بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ اسے اٹھا کر اس امید پر کندھے پر بٹھا لیا کہ اپنے بیٹے کو لینے آئیں گے تو شاید مجھے بھی واپس لے جائیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا بھی پتہ نہ کیا۔ جب شر سے دو کوس باہر آگئے عقب سے ایک خوفناک آواز سنائی دی (ص ۱۳۷) معلوم ہوا کہ سید ایوب ماجینی کے شہر پر خدا کا غضب نازل ہوا ہے۔ مخدوم ایوبؒ اہلیہ سمیت کدن اوترا زمینداروں کی بستی میں تشریف لائے اور ایک کھمار کے گھر قیام فرمایا۔ وہ کھمار آپ کا مرید ہو گیا اور رہنے کے لئے گھر آپ کے حوالے کر دیا۔

نقل ہے کہ سلطان ایوب قتل اپنی بیوی کو کھمار کے گھر میں بٹھا کر خود شیخ صدرالدین سے ملاقات کے لئے تشریف لے گئے۔ شیخ صدرالدین نے کہا کہ بھتیجا! اپنی بیوی کو یہاں لے آؤ کہ وہاں رہنا تمہاری شان کے شایاں نہیں ہے۔ مخدوم صاحبؒ نے فرمایا کہ فی الحال تو ہم وہیں ٹھہرتے ہیں۔ آپ کے چچا صدرالدین نے ایک گائے جسے بھاگ کہتے تھے آپ کو عنایت کی۔ کچھ خرچ بھی دیا۔ مخدوم صاحبؒ لوٹ آئے اور گائے اس کھمار کو دے دی۔ کھمار ایک وقت کا دودھ مخدوم صاحبؒ کو دے رہا اور دوسرے وقت کا اپنے لئے رکھ لیتا۔ مخدوم صاحبؒ دن رات تالاب کے کنارے یاد خدا میں مشغول رہتے تھے۔ ایک جوان اوترا اوان کھمار کے گھر آنے جانے اور بے ادبی کی باتیں کہنے لگا۔ جب رات ہوئی اور مخدوم صاحبؒ گھر آئے تو

کھار کی بیوی اور آپ کی اہلیہ نے اس کی گستاخی کی کہانی سنائی۔ مخدوم صاحب علی الصبح اہلیہ سمیت وہاں سے کوچ کر کے تلاب کے کنارے آ بیٹھے اور مکان تعمیر کرنا شروع کیا۔ (ص ۳۷ ب) اوتراؤں کو جب یہ خبر پہنچی کہ فقیر تلاب کنارے اپنا گھر بنا رہا ہے تو وہ چڑھ آئے اور مخدوم صاحب کو مکان بنانے سے روکا کہ یہ زمین ہماری ملکیت ہے۔ قیمت ویسے بغیر مکان نہ بناؤ۔ مخدوم صاحب نے زمین کی قیمت پوچھی۔ انہوں نے ہزار و ستر بتائی۔ مخدوم صاحب نے فرمایا کہ جاؤ ہمارے محلے کے نیچے سے گن کر لے لو۔ اوتراؤں نے مصلا اٹھایا تو سرخ و ساروں کا ایک ڈھیر دیکھا۔ بغیر گنے بہت سارے و ستر اٹھا کر گھر لے گئے۔ جب گھر آکر (پوٹلی کی) گرہ کھولی تو ایک ہزار و ستر باقی رہ گئے باقی بچھو اور سانپ بن گئے۔ دیکھ کر ڈرے اور متعجب ہوئے بولے فقیر نے جاؤ کیا ہے۔ ہمیں چاہئے کہ اس کی گائے کو کھا جائیں۔ چنانچہ چوری کر کے ذبح کی اور کھا گئے۔ کھار گائے کے گھر آنے کے وقت تک اس کا انتظار کرتا رہا۔ جب نہ آئی تو بڑی تلاش کی۔ نہ ملی۔ وہ اوتراؤں کے سر ہوا۔ اوتراؤں نے اس کو خوب مارا پیٹا۔ صبح کو کھار اور اس کی بیوی دونوں نے مخدوم صاحب کے پاس آکر فریاد کی کہ اوتراؤں کی گائے کو کھا گئے ہیں اور خود انہیں بہت مارا ہے۔ مخدوم صاحب نے اوتراؤں کو بلا کر گائے طلب کی۔ تو وہ (چوری سے) منکر ہو گئے۔ مخدوم نے فرمایا قسم کھاؤ۔ وہ راضی ہو گئے۔ مخدوم صاحب نے فرمایا کہ لوٹے میں پانی ہے وضو کر لو۔ جب وضو کرنے لوٹے کی طرف گئے۔ دو کالے سانپ لوٹے سے نکل آئے۔ اوتراؤں نے دعویٰ کیا کہ فقیر نے یہ سانپ خود آفتابے میں ڈالے اور ہمیں وضو کرنے کے لئے کہا۔ مخدوم صاحب نے فرمایا کہ یہ تمہارا جھوٹ ہے (ص ۱۳۸) جو سانپ بن گیا ہے۔ فرمایا اچھا تلاب پر جا کر وضو کر لو۔ جب وہ تلاب کی طرف گئے تو دو شیر انہیں کھانے کو دوڑے۔ وہ یہ کہتے ہوئے واپس بھاگے کہ ہمیں وضو کے لئے کہہ رہے ہیں اور خود وہاں شیر بٹھا دیئے کہ ہمیں کھا جائیں۔ مخدوم صاحب نے فرمایا کہ تم جھوٹے ہو۔ سچ بات بیان کرو۔ انہوں نے کہا کہ کھار ہم پر جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ ہمیں گائے کا کوئی پتہ نہیں۔ مخدوم صاحب نے حالت جذب میں آکر فرمایا کہ اچھا اگر تم نے اسے ذبح کر کے نہیں کھایا تو ہم اسے بلاتے ہیں۔ انہوں نے کہا

ضرور بنائے۔ حضرت مخدومؒ نے بلند آواز سے فرمایا۔ بھاگ، بھاگ، بھاگ! ان تالاقوں اور تراویں کے پیٹ سے گائے کی آواز آئی۔ مخدوم صاحبؒ نے فرمایا جاؤ تم پر غضب الہی نازل ہو گا۔ جب رات ہوئی اس بستی پر خدا کے حکم سے آسمان سے پتھر برسنے لگے اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ سوائے کھار کے گھر کے جسے بالکل کوئی نقصان نہ پہنچا۔ صبح کھار اپنی بیوی کو لے کر مخدوم صاحبؒ کی خدمت میں آگیا اور وہ بستی مٹی کا ڈھیر بن کر رہ گئی۔ مخدوم صاحبؒ نے اس جگہ (تالاب کنارے) ایک گاؤں بسا کر خضرپور اس کا نام رکھا اور وہیں سکونت اختیار کی۔

نقل ہے کہ مخدوم صاحبؒ موضع خضرپور میں کھتی باڑی کیا کرتے۔ وہ ہر روز اپنے چچا مخدوم صدرالدینؒ کی خدمت میں جا کر ملاقات کرتے اور واپس آجاتے۔ مخدوم صدرالدینؒ نے مخدوم ایوبؒ کو دودھ کے لئے ایک بھینس عنایت کی۔ مخدوم سلطان ایوبؒ نے عرض کیا کہ بھینس (ص ۳۸ ب) آپ کے لوگ چرا لیں اور میں آکر دودھ لے جایا کروں گا۔ اس امر پر ان میں اتفاق ہو گیا (اور ایسا ہی ہوتا رہا)۔ اسی اثنا میں سلطان ایوبؒ کے ہاں فرزند محمد یوسف پیدا ہوئے۔ شیخ صدرالدین یہ سن کر مع اہل و عیال تشریف لائے اور بہت خوشی منائی۔ خضرپور کے نزدیک اپنی آبادی اور بے آباد زمین مخدوم صاحب کے فرزند کو عطا کر دی اور واپس ہوئے۔ مخدوم یوسف کے بعد مخدوم عالم تولد ہوئے۔ ان کے بعد مخدوم رکن الدین اور ان کے بعد مخدوم ابوبکر اور ان کے بعد مخدوم بایزید جو پیدا ہوتے ہی سوال جواب کرنے لگے اور کہا کہ مجھے اس فانی دنیا میں رہنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ بیٹھا دلیہ پکا کر میری ارواح (روح) کو ثواب پہنچانے کی خاطر اہل نسب کے تصرف میں دے دیا کریں۔ کسی اجنبی کو کھانے کو نہ دینا۔ اگر وہ کھائے گا تو گونگا ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر جاں بحق تسلیم ہوئے۔

نقل ہے کہ ایک دن شیخ صدرالدینؒ کی طرف سے خط پہنچا۔ مخدوم صاحبؒ نے چاروں فرزندوں کو بلایا کہ اس خط کو پڑھیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ آپ نے ہمیں پڑھنا تو سکھایا ہی نہیں ہم کس طرح پڑھ سکتے ہیں۔ مخدوم عالم خاموش کھڑے تھے۔ مخدوم صاحبؒ نے فرمایا کہ عالم! تو پڑھ سکتا ہے۔ مخدوم عالم نے عرض کیا کہ اگر آپ

زبان مبارک سے فرماتے ہیں تو پڑھتا ہوں۔ فرمایا پڑھ۔ مخدوم عالم نے پڑھنا شروع کیا۔ مخدوم صاحب نے دعا کی کہ اے فرزند تمہاری اولاد سے جو ان پڑھ ہو گا وہ خود بخود پڑھا لکھا (یعنی عالم) ہو جائے گا۔ اور جو خواندہ ہو گا وہ زندگی بھر صاحب کشف ہو گا۔ مخدوم صاحب کی دعا قبول ہوئی۔ مخدوم عالم کی اولاد سے (ص ۱۳۹) ہر ناخواندہ خواندہ ہو جاتا ہے۔

نقل ہے کہ حضرت مخدوم سلطان ایوب قنل وجد و کشف و کرامات اور طی المکان (۸) کے مقام پر قانز تھے۔ ایک دن حجرے میں تشریف فرما تھے کہ شیخ صدرالدین کا خط پہنچا جس میں لکھا تھا کہ ہمارے پاس چلے آئیں۔ مخدوم صاحب یہ خط پڑھتے ہی اٹھے اور تیار ہو کر مخدوم صدرالدین کی خدمت میں پہنچ گئے۔ ایک دوسرے سے مصافحہ کیا۔ مخدوم صدرالدین نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے بھائی محمود کی جمعہ تراشی (موت تراشی) حضرت والد گرامی کی خانقاہ مطرہ میں جا کر کروں۔ تم اہل و عیال سمیت تیار ہو جاؤ۔ مخدوم نے جواباً فرمایا کہ قبلہ چچا مخدوم حسن آپ سے مخالفت رکھتے ہیں وہاں جانا ٹھیک نہیں۔ بہتر ہے کہ ہمیں موت تراشی کی جائے۔ مخدوم صدرالدین کو یہ صلاح پسند آئی۔ فرمایا ہم نے تمہاری صلاح کو پسند کیا۔ ساتویں ماہ شعبان بروز جمعہ تم قبائل سمیت یہاں آجاؤ۔ انہوں نے قبول کیا اور اجازت چاہی۔ مخدوم صدرالدین نے فرمایا کہ ابھی بھینس آتی ہے تم دودھ پی کر جانا۔ کچھ دیر رکے پھر اجازت طلب کی دوبارہ مخدوم صاحب نے اصرار کیا کہ دودھ پی کر جانا۔ جب دیر ہو گئی تو مخدوم سلطان ایوب نے فرمایا کہ چچا جان بھینس کو شیر نے کھا لیا ہے جو ابھی تک نہیں آئی۔ شیخ صدرالدین نے فرمایا کہ بددعا نہ کرو بھینس آنے ہی والی ہے۔ اسی اثناء میں محافظ یہ خبر لے کر آیا کہ بھینس کو شیر نے پھاڑ کھایا ہے (ص ۳۹ ب) مخدوم صاحب غصے میں آگئے اور فرمایا اے ایوب جواں مرگ! تجھے موت آئے تو نے بددعا کر کے بھینس شیر کو کھلا دی۔ سلطان ایوب نے فرمایا چچا صاحب! پہلے یہ بندہ مرے گا اور اس کے بعد۔ آپ چنانچہ غصے میں جوش سے بھرے گھر تشریف لے آئے اور واصل حق ہوئے۔ سلطان ایوب قنل نے ۷۶۱ھ میں وفات پائی۔

نقل ہے کہ مخدوم صدرالدین کے ہاں (شیخ محمود کے علاوہ) تین بیٹے اور پیدا

ہوئے تھے جن کے نام تھے مخدوم زین الدین، مخدوم رکن الدین اور مخدوم عبداللہ۔ سب بیٹوں کی شادی کر دی اور جائداد اور مال مویشی سب ان میں تقسیم کر دیئے۔ صبح کی نماز کے بعد سلطان ایوب قتال کے فوت ہونے کے چار گھڑی بعد مخدوم صدر الدین بھی (۷۷۶ھ میں) وفات پا گئے۔

تذکرۃ الاولیاء (A-۸۲) میں مختصر طور پر بیان ہوا ہے کہ حضرت مخدوم احمد غوث بن شیخ ابوبکر کی اولاد سات فرزند ہیں اول فرزند مخدوم عبدالرشید حقانی صاحب اولاد با برکت اپنے کمالات کی وجہ سے مشہور ہیں۔ دوم فرزند مخدوم عبدالرحمن (ص ۱۴۰) لاولد۔ سوم مخدوم طاہر لاولد۔ چہارم مخدوم موسیٰ نواب لاولد۔ پنجم واول دریا لاولد۔ ششم مخدوم سادہ بن لاولد۔ ہفتم مخدوم ملا فقیر علی کہ صاحب اولاد تھے۔ چنانچہ شاہ یوسف جن کا مزار کھرکھرائی (۸۳) کی طرف ہے انہی کی اولاد میں سے ہیں۔

مخدوم عبدالرشید حقانی کی اولاد کا بیان : ان کے چار بیٹے ہیں۔ اول مخدوم ابوبکر، دوم مخدوم محمد جو مخدوم بہاء الدین کی ہمشیرہ محترمہ کمال خاتون کے بطن سے ہیں۔ سوم مخدوم حسن نواسلطان تعلق آپ کی والدہ کا نام بیگم معظم خاتون تھا۔ چہارم فرزند مخدوم صدر الدین نواسہ لونا کچی بوسال۔ والدہ ماجدہ کا نام بی بی راج کنول تھا۔

مخدوم ابوبکر کے بیٹوں کے نام : سلطان ایوب قتال صاحب اولاد تھے اور بہت مشہور ہیں۔ دوم مخدوم لعل حافظ لاولد۔ سوم مخدوم محمد یعقوب۔ چہارم مخدوم ہود۔

مخدوم سلطان ایوب قتال کی اولاد۔ پانچ بیٹے مخدوم یوسف، مخدوم عالم، مخدوم ابوبکر، مخدوم رکن الدین اور بایزید۔ مخدوم یوسف کے دو بیٹے تھے مخدوم مبارک اور مخدوم موسیٰ۔ مخدوم عالم کے دو بیٹے تھے مخدوم شاہ درویش (ص ۳۰ ب) اور شیخ احمد لاولد۔

مخدوم ابوبکر کی اولاد۔ ایک فرزند شیخ معین الدین۔

مخدوم رکن الدین کے چار بیٹے تھے مخدوم کریم اللہ، رحمت اللہ، عبداللہ،

عبدالعزیز۔

ذکر اولاد محمد محمد فرزند دوم محمد عبدالرشید حقانی اول شیخ بدہ 'دوم کرم اللہ'
سوم سراج الدین 'چہارم محمد قاسم۔

محمد حسن کے چار بیٹے تھے۔ محمد نورا اللہ 'محمد محمد داؤد' محمد عیسیٰ
محمد موسیٰ۔

صدر الدین کے چار بیٹے۔ محمد محمد 'محمد زین الدین' محمد رکن الدین
محمد عبداللہ۔

محمد محمد کی اولاد صرف ایک بیٹا شیخ ابن۔

محمد زین الدین کے تین بیٹے تھے شیخ شمس الدین 'شیخ ابواسحاق' شیخ بہان

الدین۔

ابواسحاق کا ایک بیٹا شیخ راجو۔

شیخ شمس الدین کا ایک فرزند تھا شیخ تلج الدین۔

تمام شد

یوز ہجرت بوقت ظہر تاریخ ۲۱ شہر محرم الحرام ۱۳۱۷ھ

بقلم فقیر محمد بخش ولد میاں کالو قوم کلال سکنہ چاہ مقیم والد موضع قصبہ مڑلاں
علاقہ تحصیل و ضلع ملتان پاس خاطر جناب محمد مسلم شاہ از اولاد حضرت محمد
عبدالرشید حقانی علیہ الرحمۃ والعترا۔

تعلیقات

(۱) خوارزم - موجودہ نام خیوا۔ حال ہی میں روس سے آزاد ہونے والے مسلم ملک ازبکستان کا ایک اہم شہر، قدیم اسلامی ثقافت کا مرکز۔

(۲) امیر تاج الدین کے چھوٹے صاحبزادے، مخدوم عبدالرشید حقانی کے آباء میں اس نام کے کئی اشخاص ہوئے ہیں۔ بالیقین یہ کرنا مشکل ہے کہ مذکورہ ملفوظات کون سے شیخ شمس الدین کے ہیں۔

(۳) کوٹ کروڑ - قدیم نام دیپال۔ خلافت العارفین کے مطابق سلطان حسین کی دعا سے ایک کروڑ کافر مشرف بہ اسلام ہوئے اور ایک روایت یہ ہے کہ وہاں پر آپ نے ایک کروڑ مرتبہ سورہ منزل پڑھی تھی۔ اس لئے اسے کروڑی کوٹ کہتے ہیں۔ اس شہر کا نام دیپال گڑھ وہاں کے مالک دیپال نامی کافر کے نام پر رکھا گیا تھا۔ موجودہ ضلع لیہ میں واقع ہے۔

(بحوالہ خلافت العارفین، اردو ترجمہ شائع کردہ ملک فضل الدین ملک چمن الدین ملک تاج الدین گے زئی، تاجران کتب قومی، کشمیری بازار لاہور، سن طباعت ۱۹۰۹ء صفحہ ۴)

(۴) حضرت بابا فرید گنج شکر - مشہور چشتی بزرگ، مرید حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، ولادت ۵۶۴ھ بمقام کوٹھیوال، وفات ۶۳۳ھ۔ مزار شریف پاکستان میں ہے۔ آپ کا شجرہ نسب تیس واسطوں کے ساتھ حضرت عمرؓ تک پہنچتا ہے۔

شیخ فرید الدین مسعود بن شیخ جمال الدین سلیمان بن شیخ شعیب بن محمد احمد بن شیخ یوسف بن شیخ شہاب الدین معروف بہ فرخ شاہ شاہ کلل بن نصیر الدین بن فخر الدین محمود بن شیمان شاہ بن سامان شاہ بن سلیمان بن شیخ مسعود بن عبد اللہ یا واعظ الاصفہر بن واعظ الاکبر ابوالفتح بن شیخ اسحاق بن شیخ نصیر بن عبد اللہ بن حضرت عمر فاروقؓ۔ (سیر الاقطاب بحوالہ حاشیہ اردو ترجمہ حدیثتہ الاولیاء محمد قبال مجددی ص ۷۵)

نیز سترہ واسطوں کے ساتھ سلطان ابراہیم بن ادھم تک منسی ہوتا ہے۔

شیخ فرید الدین مسعود بن شیخ جمال الدین سلیمان بن شعیب بن احمد بن یوسف بن شہاب الدین معروف بہ فرخ شاہ شاہ کابل بن نصیر الدین بن محمود المعروف بہ شہمان شاہ بن سامان شاہ بن سلیمان بن مسعود بن عبد اللہ بن ابوالفتح بن اسحاق بن ابراہیم شاہ بلخ بن ادھم بن سلیمان بن ناصر بن عبد اللہ بن عمر۔

(حدیقتہ الاولیاء اردو ترجمہ ص ۷۵)

آپ کے ملفوظات اسرار الاولیاء کے نام سے خواجہ بدر اسحاق نے اور راحت القلوب کے نام سے حضرت نظام الدین اولیاء نے مرتب کئے۔

(تاریخ ادبیات مسلمانان پاک و ہند، تیسری جلد، فارسی ادب (اول) ص ۳۳۔
بزم صوفیہ صباح الدین عبدالرحمن ص ۱۲۹)

(۵) سید جلال الدین سرخ بخاریؒ۔ ولادت ۵۵۷ھ، وفات ۶۵۲ھ، بخارا سے ملتان تشریف لائے۔ حضرت شیخ بہاء الدین زکریاؒ کے مرید اور خلیفہ ہوئے۔ اخبار الاخیار، عبدالحق محدث دہلویؒ، اردو ترجمہ ص ۱۳۷)

آپ مخدوم سید جلال الدین بخاری جہانیاں جہانگشت کے دادا تھے۔

صاحب خزینۃ الاصفیاء نے آپ کا پورا نام سید جلال الدین شیر شاہ میر سرخ بخاری اوچی قدس سرہ اور شجرہ نسب یوں لکھا ہے۔

سید جلال الدین میر سرخ بخاریؒ بن سید ابوالموید علی بن سید جعفر بن سید محمد بن سید احمد بن سید عبد اللہ بن سید علی اصغر بن سید جعفر ثانی بن امام تقیؒ۔

آپ کے ساتویں جد سید علی اصغر کے دو صاحبزادے تھے۔ سید عبد اللہ اور سید اسماعیل، سید عبد اللہ کی اولاد سے خاندان سادات بخاری اور سید اسماعیل کی اولاد سے خاندان سادات بھاگری طاہر ہوا۔ (ملاحظہ ہو مفتی غلام سرور لاہوری، حدیقتہ الاولیاء، تحقیق و تطبیق محمد اقبال مجددی اسلامک بک فاؤنڈیشن، ۱۹۷۶ء لاہور، ص ۱۵۰)

(۶) حضرت شیخ بہاء الدین زکریاؒ سموردی۔

سید جلال الدین بخاری قدس اللہ سرہ العزیز کے ملفوظات کے مطابق (حوالہ خلاصۃ العارفین اردو ترجمہ ص ۳) آپ کی پیدائش ۲۷ رمضان المبارک ۵۶۰ھ اور مرآة الاسرار مؤلفہ عبدالرحمن چشتی (نسخہ مملوک محمد یعقوب فراہی مکتبہ عزیزبہ اردو بازار لاہور) کے مطابق ۵۶۵ھ بروز جمعہ کوٹ کروڑ میں ہوئی۔ شیخ بہاء الدین کی والدہ محترمہ حضرت بی بی قاطرہ بنت شیخ عیسیٰ تھیں (جامع الکرامات) اور شیخ عیسیٰ کو تاریخ کی بعض کتابوں میں شیخ احمد اور شیخ محمد بھی لکھا ہے اور سفینۃ الاولیاء دارالمنکبہ میں شیخ شرف الدین عیسیٰ بن حضرت غوث الثقلین غوث الاعظم شاہ محی الدین شیخ عبدالقادر الحسینی الحسینی النجلی الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا ہے۔ دیگر ذرائع کے مطابق ان کی والدہ ملتان کے مولانا حسام الدین ترمذی کی صاحبزادی تھیں۔ نہ کہ شیخ عیسیٰ کی، کیونکہ وہ لاولد تھے۔

آپ کا سلسلہ ارادت حضرت شہاب الدین ابو حفص عمر اور ان کے پیر شیخ ضیاء الدین نجیب اور ان کے پیر شیخ وجیہ الدین تک پہنچتا ہے جو عمداں کے قریب مقام سمورد کے رہنے والے تھے۔ اس لئے ان کے سلسلے کو سموردیہ کہتے ہیں۔ حضرت شہاب الدین سموردی کی ولادت ۵۳۲ھ اور وفات ۵۳۳ھ میں ہوئی۔ عوارف الحارف ان کی سب سے مشہور کتاب ہے۔

(بزم صوفیہ)

شیخ بہاء الدین زکریاؒ کا شجرہ ارادت

اول

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

حضرت علی کرم اللہ وجہہ

حضرت حسن بصریؒ

شیخ حبیب عجمیؒ

شیخ داؤد طائیؒ

شیخ معروف کرنیؒ

شیخ سری سقلیؒ

شیخ جنید بغدادیؒ

شیخ ممشاد و غوریؒ

شیخ اخئی فرخ زنجانیؒ

شیخ وجیہ الدینؒ

شیخ ضیاء الدین ابو نجیب کبریؒ

شیخ شہاب الدین سروردیؒ

شیخ شہاب الدین زکریاؒ

یزم صوفیہ کے مطابق شیخ وجیہ الدین سے شیخ ابو عبد اللہ سے شیخ اسود احمد و غوری سے
شیخ ممشاد و غوری سے خواجہ جنید بغدادی سے —————

۳۳

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

حضرت امام حسینؑ

حضرت امام زین العابدینؑ

حضرت امام باقرؑ

حضرت امام جعفر صادقؑ

امام موسیٰ کاظمؑ

امام موسیٰ رضاؑ

شیخ معروف کرخیؒ

شیخ سری سقلیؒ

شیخ جنید بغدادیؒ

شیخ مشاد و شوریؒ

شیخ اخنی فرخ زنجانیؒ

شیخ وجیہ الدینؒ

شیخ ضیاء الدین ابو نجیب کبریؒ

شیخ شہاب الدین سروردیؒ

شیخ بہاء الدین زکریاؒ

یہ دو شجرے اس وجہ سے ہیں کہ شیخ معروف کرخیؒ نے دو جگہ بیعت کی۔ (۱) امام موسیٰ رضاؑ سے (۲) شیخ داؤد طائیؒ سے (حوالہ خلاصۃ العارفین)

شیخ بہاء الدین زکریاؒ کا نسب نامہ

خلاصۃ العارفین میں واقدی کا یہ قول درج ہے کہ میں نے شیخ الاسلام شیخ صدر الدین ابی المغانم محمد کے خط سے لکھا ہوا ایک معتبر نسخہ پایا جس میں بہاء الدین بہاء الحق زکریاؒ کا نسب نامہ اس طرح درج ہے۔

شیخ بہاء الدین زکریاؒ بن شیخ محمد غوث بن شیخ ابی بکر بن سلطان جلال الدین بن سلطان علی قاضی بن شمس الدین محمد کروڑی بن سلطان حسین بن سلطان عبداللہ بن سلطان حسین محمد بن سلطان مطرف بن سلطان خذیمہ بن امیر حازم بن امیر تاج الدین بن امیر عبدالرحیم بن امیر عبدالرحمن بن امیر عیار بن اسد بن ہاشم بن عبدالمناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب۔

اسد بن ہاشم غلط ہے، درست نسب نامہ یوں ہے: اسد بن عبدالعزیٰ بن قصی بن کلاب.....

خلافت العارفین ص ۷۷ کے مطابق شیخ بہاء الدین زکریا کا شجرہ ارادت (امیر عیار تک) بھی یہی ہے جو اوپر مذکور ہوا۔

(۷) مروان ثانی بن محمد - ۶۳۷ تا ۶۳۲ھ - بنی امیہ کا آخری خلیفہ۔
مروان الثمار۔ گدھے کی طرح تختی ہونے کی وجہ سے حمار کا لقب پایا۔ شاید مؤلف نے ازراہ نفرت ملک حمار مروانی لکھا ہے۔

(۸) یہ جملہ نسخہ 'میں نہیں ہے۔

(۹) مراد شیخ شمس الدین

(۱۰) زابل - افغانستان کا ایک صوبہ۔

(۱۱) غالباً "کوہ ہندو کش"

(۱۲) مارج - آگ کا سرد شعلہ۔ اقوام مارج سے مراد تاری مخلوق، شیاطین وغیرہ۔

(۱۳) کوہ جدی (Jud Mountains) / کوہستان نمک کے دامن میں واقع مقام کا نام

(۱۴) کوہ جدی غالباً کوہستان نمک (بحوالہ گزسٹر آف ملتان ۱۹۰۱-۰۲ء ص ۸۳)
۱۹۰۲ء میں محمود غزنوی ان جاٹوں سے لڑنے کے لئے جو کوہ جدی میں رہتے تھے ملتان آیا، کشتیوں کا بیڑہ تیار کیا اور جاٹوں سے عظیم دریائی لڑائی لڑی (فرشتہ جلد اول ص ۸۳)

(۱۵) بر عظیم کا مترادف، نیز صحرائے وسیع و عریض (تھل) بھی مراد ہو سکتا ہے۔

(۱۶) موجودہ نام کروڑ لعل عیسن، مشہور قصبہ واقع ضلع لیہ، سابقہ نام وہپال گڑھ۔
روایت کے مطابق شیخ حسین نے یہاں ایک کروڑ بار سورہ منزل پڑھی، لہذا یہ یہ ہوا۔ بروایت دیگر آپ نے صد لک، کافر مسلمان کئے۔

(۱۷) سلطان محمود غزنوی کا بھانجا، یہ اسی نام کے بادشاہ سے مختلف شخص

(۱۳) ب: ب

(۱۴) ب: فرار

(۱۵) مذہبی مقالات، عبادت گاہیں

(۱۶) راجستان (بھارت) کی ایک ریاست اور اس نام کا شہر

(۱۷) ایضاً

(۱۸) ایضاً

(۱۹) ایضاً

(۲۰) ناگور: راجستان (بھارت) کا قدیم شہر، علمی و ثقافتی مرکز، صوفی حمید الدین ناگوری کا وطن۔

(۱۲۸) مؤلف جامع الکرامات نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب مبارک درست نہیں لکھا۔ سیرت ابن ہشام کے مطابق شجرہ نسب مبارک درج ذیل ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف و قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن معر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن مقوم بن ناحور بن تیرح بن حرب بن شمعون بن نبط بن اسماعیل بن ابراہیم خلیل الرحمن بن تارح (آزر) بن ناحور بن ساروغ (اسرغ) بن راعو (ارغو) بن قلیح بن عیر (عابر) بن شالخ بن ارفخشذ بن سام بن نوح بن لکھ بن متوشلح بن اختوخ (اوریس نبی) بن یرود بن ملائیل بن قینن (قاین) بن یانش (انوش) بن شیث بن آدم

(۲۹) ٹھٹھہ :- یہ اسی نام کے شہر واقع نزد کراچی سے مختلف ہے۔ پاکستان میں اس نام کے کئی مواضع ہیں۔

(۳۰) چٹروڑیا چٹروڑ گڑھ :- تحصیل کبیر والا ضلع ملتان میں ہے۔

(۳۱) سر ازکار الماضین :- مؤلفہ سلطان علی قاضی ابوبکر۔ یہ کتاب اب ناپید ہے۔

(۳۲) ب :- اوچینی

(۳۳) اوجین یا اجین :- شمالی ہند کا مشہور شہر۔

(۱۳۳) حصار شادمان :- شہر نزدیک بلخ۔ شہری از ماورا النہر۔ (دعویٰ)

(۳۴) بلخ :- خراسان قدیم کا ایک بڑا شہر۔ قرون وسطیٰ میں اسے بہت اہمیت حاصل رہی ہے۔ اسے تبت الاسلام کہا جاتا تھا۔

(۳۵) شیخ احمد خضرویہ :- عبدالرحمن چشتی نے مرآة الاسرار میں احمد بن خضرویہ لکھا ہے۔ طبقہ اول کے مشائخ میں سے تھے۔ آپ کی کنیت حارہ بلخی ہے۔ خراسان کے مشائخ میں سے تھے۔ اصل میں آپ بلخ کے رہنے والے تھے۔ آپ نے خواجہ ابو تراب بخشی اور حاتم اصم کی صحبت پائی ہے۔ حضرت ابراہیم اوہم خواجہ بایزید اور ابو حفص حداد کو دیکھا ہے۔ آپ کی کرامات بے شمار اور کلمات بلند ہیں۔ وفات ۲۳۰ھ میں ہوئی۔ مزار بلخ میں ہے۔

(مرآة الاسرار، اردو ترجمہ از واحد بخش سیال، ۱۳۱۱ھ بزم اتحاد المسلمین طارق روڈ لاہور کینٹ)

(۳۶) حضرت امام اعظم :- ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، تابعین میں سے تھے۔ آپ نے کئی صحابہ کا زمانہ دیکھا۔ اہل زہد و ورع تھے۔ ولادت ۸۰ھ میں ہوئی۔ ستر سال کی عمر میں سن ۱۴۹ھ میں وفات پائی۔ مشہور فقہ اور اہل سنت والجماعت کے چار آئمہ میں سے ہیں۔ ان کی مرتب کردہ فقہ کو فقہ حنفی کہتے ہیں اور مقلدین کو حنفی المذہب۔ عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے منصب قضاء آپ کے سپرد کرنا چاہا لیکن آپ نے قبول نہ کیا۔ چنانچہ آپ کو قید کر دیا گیا۔ آپ بغداد کے زندان ہی میں فوت ہوئے۔ آج دنیا بھر کے مسلمانوں میں نصف سے زیادہ حنفی عقیدہ رکھتے ہیں۔ یہ نظائر و اشباہ سے نتیجہ و فیصلہ کا استنباط کرتے ہیں۔ حدیث سے استناد لازم نہیں

کہتے۔ (لغت نامہ، علامہ علی اکبر وحمدا)

(۳۷) مصلائی حنفی :- ترکی حکومت کے عہد تک خانہ کعبہ میں چار محلے تھے۔ مصلائی حنفی، مصلائی شافعی، مصلائی مالکی اور مصلائی حنبلی۔ اہل سنت و الجماعت کے ان چاروں مذاہب کے آئمہ اپنے اپنے ہم مذہبوں کو نماز پڑھایا کرتے تھے۔

(۳۸) مراد سلطان ایوب قتال -

(۳۹) شیخ عیسیٰ :- جامع الکرامات کے مطابق شیخ وجیہ الدین محمد غوث کی شادی شیخ عیسیٰ نبیرہ شیخ عبدالقادر جیلانی کی صاحبزادی بی بی فاطمہ سے ہوئی تھی۔ جبکہ خزیستہ الاصفیا اور تاریخ فرشتہ کے مطابق ان کی شادی مولانا حسام الدین ترمذی کی دختر سے ہوئی جو موضع کوٹ کروڑ میں سکونت پذیر تھے۔ شیخ بہاء الدین ۵۷۸ھ میں پیدا ہوئے۔ (حدیقتہ الاولیاء ص ۱۳۸)

(۴۰) مراد بی بی فاطمہ :- بقول مولانا فضل اللہ جمالی مؤلف سیر العارفین اور مورخ محمد قاسم فرشتہ یہ محترم خاتون مولانا حسام الدین ترمذی کی صاحبزادی تھیں۔

(۴۱) حضرت بہاء الدین زکریا :- والد گرامی کانام وجیہ الدین محمد غوث، پیدائش ۵۷۸ھ کوٹ کروڑ میں، خرد خلافت شیخ شہاب الدین سموردی سے حاصل کر کے ۶۱۳ھ میں ملتان تشریف لائے۔ وفات و مدفن ملتان میں ۶۲۱ھ میں۔ شیخ سعدی شیرازی کے پیر بھائی تھے۔ حضرت بہاء الحق برصغیر میں سلسلہ سموردیہ کے بانی ہیں۔ (حدیقتہ الاولیاء ص ۱۳۸)

(۴۲) شیخ جمال الدین سلیمان :- بابا فرید گنج شکر کے والد محترم، بزرگ صوفی۔

(۴۳) کھوتوال :- ملتان سے پندرہ میل اور شہر مخدوم رشید سے جانب شمال بدھ سنت روڈ پر پانچ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اصل نام کوٹھیوالا ہے۔ حضرت فرید الدین گنج شکر کی جائے ولادت ہے۔ آپ کے والد شیخ جمال الدین سلیمان کا مزار یہیں ہے جو مخدوم عبدالرشید حقانی کے والد گرامی حضرت مخدوم احمد غوث کے مرشد تھے۔ اس مقام کو آج کل دیوان چاولی مشائخ کہتے ہیں۔

(۱۳۳) شیخ کمال الدین محمد عیسیٰ :- خزینۃ الاصفیاء اور تاریخ فرشتہ میں
شیخ کمال الدین محمد عیسیٰ لکھا ہے (حوالہ حاشیہ منبع البرکات ص ۳۰)

(۳۳) سیر العارفين :- مؤلفہ مولانا جمالی (متوفی ۱۵۳۵ھ / ۱۹۲۲ء) پورا نام
حامد فضل اللہ کتبہ دہلی۔

دیگر تصانیف: مثنوی معرودہ، مثنوی مرآة العافی، دیوان جمالی۔
صوفی اور شاعر تھے۔

(۳۵) مشیرہ مخدوم بہاء الدین زکریا :-

(۳۶) شاہ گردیز :- قطب الاقطاب حضرت سید ابو الفضل جمال الدین محمد

یوسف گردیزی قطب بہ شاہ گردیز علیہ الرحمۃ، والد کا نام سید علی ابوبکر، دادا شاہ علی
قصور پیدائش ۱۲۵۰ھ قصبہ گردیز نزد غزنی (افغانستان) ۱۳۸۱ھ میں ۳۶ سال کی عمر میں
ملتان تشریف لائے۔ آپ ملتان کے یہ قدیم ترین بزرگ ہیں جنہوں نے یہاں رشد و
ہدایت کی شمع روشن کی۔ یہاں آمد سے پہلے قرآن، حدیث، فقہ اور دیگر علوم کے
حصول کے علاوہ جذب و سلوک اور فنا و بقا کے مقامات کا عرفان حاصل کر چکے تھے۔
اہل اللہ لوگوں سے ملاقات کے لئے بلخ، بخارا، سمرقند اور تاشقند کا سفر کیا۔

ملتان سلطان محمود غزنوی کی یلغاروں سے بالکل تباہ اور غیر محفوظ شہر بن چکا تھا۔
بہت سے لوگ اس شہر کو چھوڑ کر جا چکے تھے۔ شہر اور قلعہ قدیمہ کے درمیان دریائے
راوی کی گذر گاہ تھی۔ کچھ آبادیاں اس ٹیلے پر جہاں اب مخدومہ پاکدامن کا مزار ہے
موجود تھیں۔ آپ نے دریا کے دوسرے کنارے پر حجرہ تعمیر کرایا۔ حضرت شاہ گردیز
کے آنے سے دین اسلام کی اشاعت کو فروغ ملا۔ ہزاروں قرامطی اپنے فاسد عقاید سے
تائب ہوئے اور لاکھوں ہندوؤں نے اسلام قبول کیا۔ پچاس سال تک تبلیغی
سرگرمیوں میں مشغول رہ کر اور اس شہر کو از سر نو آباد کر کے بارہ ربیع الاول ۵۳۱ھ
کو وفات پائی۔

جناب سید حسن رضا گردیزی نے لکھا ہے کہ ملتان کا موجودہ شہر شاہ یوسف گردیز
کا ہی آباد کردہ ہے۔ اس سلسلے میں گزسٹر آف دی ملتان ڈسٹرکٹ ۱۹۰۱ء کے

صفحات ۳۳، ۳۸، ۵۳، ۳۳۶۔ آری ہسٹری آف ملتان از خان بہادر سید محمد لطیف کے صفحات ۱۸-۳۰، ۳۱ تاریخ ضلع ملتان مؤلفہ مٹی حکم چند مطبوعہ ۱۸۹۳ء کے صفحات ۳۳، ۳۳، ۳۳، ۳۳ و تذکرۃ الملکان از مخدوم سید محمد یوسف ذکر چہارم قابل ملاحظہ ہیں۔ ملتان میں تشریف آوری کے وقت آپ شیر پر سوار تھے اور آپ کے ہاتھ میں سانپ کا تازیانہ تھا۔ (اخبار الاخیاء عبدالحق محدث دہلوی) خانقاہ کی شمالی دیوار پر یہ شعر صدیوں سے لکھا ہوا ہے۔

دانی سوار شیر کہ در دست مار کرد
مخدوم شاہ یوسف ابن جا قرار کرد

(ماخوذ از مضمون بعنوان بالا از سید حسن رضا گردیزی، فارسی پاکستانی و مطالب پاکستان شناسی جلد دوم صفحات ۳۰۱ تا ۳۰۳)

(۳۷) ملتان کا ایک قدیم دروازہ :-

(۳۸) مراد قلعہ ملتان :-

(۳۹) حمدان :- ایران کا ایک نہایت قدیم شہر۔

(۴۰) شہر ہریو :- ہریو اور ہری، ہرات کے قدیم نام ہیں۔ ہرات افغانستان کا مشہور شہر ہے۔

(۴۱) تہرہ :- آذربائیجان (ایران) کا ایک قدیم شہر

(۴۲) سید حسینی :- جلال الدین تہرہ کے برادر خورد۔ تفصیل حواشی مقدمہ میں

(۴۳) شیخ جلال الدین تہرہ :- آپ کا شمار بزرگان روزگار اور عارفان صاحب اسرار میں ہوتا ہے۔ آپ جامع علوم ظاہری و باطنی تھے۔ سیر العارفین میں لکھا ہے کہ آپ شیخ بدر الدین ابو سعید تہرہ کے مرید تھے۔ ان کی وفات کے بعد تہرہ سے بغداد جا کر شیخ شہاب الدین عمر سموردی کی خدمت میں حاضر ہو کر سات سال کسب فیض کرتے رہے۔ جب شیخ شہاب الدین نے شیخ بہاء الدین زکریا کو نعمت و

کرامت دے کر ہندوستان روانہ کیا تو غایت محبت سے شیخ جلال الدین بھی ان کے ساتھ چل پڑے لیکن راستے میں ایک وجہ ناراضگی ہوئی چنانچہ شیخ بہاء الدین زکریاؒ ملتان چلے گئے اور شیخ جلال الدینؒ میر کرتے ہوئے سلطان شمس الدین التمش کے عہد میں دہلی پہنچے۔ خواجہ قطب الدین بختیار اوشیؒ سے ملاقات ہوئی۔ یہاں قاضی القضاة شیخ نجم الدین صغریٰ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ چنانچہ آپ بدایوں چلے گئے۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد بنگال تشریف لے گئے اور وہاں رشد و ہدایت کا سلسلہ جاری کیا۔ آپ کے ملفوظات کا خواجگانِ چشت نے اکثر ذکر کیا ہے۔ تاریخ وقات معلوم نہیں لیکن آپ خواجہ قطب الاسلام قدس سرہ اور شیخ بہاء الدین زکریاؒ کے ہم عصر تھے۔ (مرآة الاسرار ص ۷۱)

(۵۳) نجم الدین کبریٰؒ - اصلی نام احمد بن عمر بن محمد بن عبداللہ۔ آپ کو عبداللہ المہوی بھی کہتے ہیں۔ لقب کبریٰ ہے اس وجہ سے کہ مناظرہ میں ہر شخص پر آپ غالب آجاتے تھے۔ پیدائش ۵۴۰ھ۔ آپ کا طین وقت اور اکابر اولیاء میں سے تھے وقت کے تمام مشائخ آپ کے کمالی کا دم بھرتے تھے سلسلہ فروسیہ کے مشائخ کے آپ سردار تھے۔ تمام علوم ظاہر و باطنی کے جامع تھے۔ آپ اکثر فرائض احدیت میں مستغرق رہتے تھے۔ جو کچھ آپ کی زبان مبارک سے نکلتا تھا فوراً پورا ہو جاتا تھا۔ آپ نے شیخ اسماعیل قسریؒ، شیخ عمار یاسرؒ، شیخ روز بہان کبیر معریؒ سے تربیت اور خلافت حاصل کی۔ میر سید اشرف جمائیکر سمنانیؒ نے لطائف اشرفی میں لکھا ہے کہ آپ کو ایک خرقہ خلافت براہ راست شیخ ضیاء الدین ابو نجیب سموردیؒ اور ایک حضرت عبدالقادر جیلانیؒ سے ملا۔ چنگیز خان کے حملے میں ۶۱۸ھ میں خوارزم میں شہید ہوئے اور وہیں دفن کئے گئے۔ (مرآة الاسرار ص ۷۳)

(۵۴) سید علی ہمدانیؒ - رحبر کشمیر سید علی ہمدانیؒ المعروف بہ شاہ ہمدان (۵۷۳ - ۵۸۶ قمری) دنیائے تصوف میں مقام بلند کے مالک، اپنے زمانے کے مشاہیر میں سے تھے۔ عالم روحانی و عارف ربانی، سیاح، مصنف، شاعر، ایرانی تابع، جہاں گئے نماز گزار، وعظ کیا، مسجد و خانقاہ تعمیر کی۔ تبلیغ و تدریس اہم ترین مشغولیت تھی۔ ایران سے کشمیر آئے اور ساتھ ہی ایرانی حوزہ بھی لائے۔ کلاہ بانی، شالبانی،

ایڈیٹر، سگڑاشی، معماری و نخت سازی جیسے فنون آپ کی بدولت ہندوستان میں متعارف ہوئے۔ آپ نے کشمیر میں اسلام کی تعظیفات کی اشاعت کی۔ اہل کشمیر نے آپ کو "معماری کشمیر" کا خطاب دیا۔

آپ کے مرید نور الدین جعفر بدخشی نے آپ کے بارے میں کتاب "خلاصۃ المناقب" لکھی۔

(حوالہ: پیش گفتار خلاصۃ المناقب از نور الدین جعفر بدخشی مرتبہ و کتر سیدہ اشرف ظفر مقالہ پی ایچ ڈی)

سید علی ہمدانی کا شجرہ نسب

سید علی ہمدانی بن شہاب الدین بن محمد بن علی بن یوسف بن شرف بن محب اللہ بن محمد ثانی بن جعفر بن عبد اللہ بن محمد بن حسن بن حسین بن جعفر بن الحجر بن عبد اللہ زاہد بن حسین اصغر بن امام زین العابدینؑ بن سیدنا امام حسینؑ بن حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضوان اللہ علیہم اجمعین۔

(ترجمہ الاصفیاء مفتی غلام سرور لاہوری)

شجرہ پیران عظام سید علی ہمدانیؒ

سید علی ہمدانیؒ مرید شیخ شرف الدین محمود مزدقانی مرید شیخ علاء الدین سمٹانیؒ مرید شیخ نور الدین عبدالرحمن اسفرائی کسٹی مرید شیخ احمد جورقانی مرید شیخ رضی الدین علی لاہ مرید شیخ نجم الدین کبریٰ مرید شیخ عمار یاسرؒ مرید شیخ ابو نجیب سموردی مرید شیخ وجیہ الدین مرید شمشاد بنوریؒ مرید جنید بغدادیؒ مرید سری سقنیؒ مرید معروف کرخیؒ مرید حبیب رانیؒ مرید حضرت سلمان فارسیؒ تربیت یافتہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

☆ استدراک: خدمت عبدالرشید حقانیؒ کی وفات ۱۲۶۹ھ میں ہوئی (جامع الکرامات) لہذا وہ ان سید علی ہمدانیؒ (متوفی ۸۱۶ھ) سے کس طرح فیض یاب ہو سکتے

تھے جامع الکرامات میں مذکور سید علی ہمدانی جن سے مخدوم عبدالرشید نے فیض حاصل کیا۔ غالباً ان سید علی ہمدانی کے پردادا تھے۔ یا اس نام کے کوئی اور بزرگ۔
(شجرہ نسب ملاحظہ فرمائیے)

(۵۵) سکندریہ :- مصر کا مشہور شہر، بندرگاہ۔ سکندر اعظم نے آباد کیا۔

(۵۶) پہرہ :- لغت علی معنی نگرانی۔

(۵۷) ابو الفرح طرطوسی :- حضرت شیخ عبدالواحد کے مرید۔

(۵۸) شیخ عبدالواحد :- حضرت شیخ شبلی کے مرید، متوفی ۴۲۵ھ

(۵۹) شیخ شبلی :- مقتدائے اولیاء، صاحب اسرار، صاحب ولایت ولی قطب

افراد خواجہ ابوبکر شبلی قدس سرہ، اسم گرامی جعفر بن یوسف ہے۔ ایک قول کے مطابق مصر کے باشندہ تھے لیکن بعد میں بغداد میں سکونت پذیر ہوئے۔ خواجہ جنید کے مرید تھے۔ آپ امام مالک کے مذہب پر تھے۔ نجات الانس جامی کے مطابق والد خراسانی تھے لیکن آپ کی نشوونما بغداد میں ہوئی۔ ریاضت و مجاہدہ میں آپ کو کمال حاصل تھا۔ آپ کے حقائق و معارف اور کرامات مشہور ہیں۔ خواجہ جنید آپ کے حق میں فرماتے ہیں۔ ”ہر قوم کے لئے ایک نجات دلانے والا ہوتا ہے اور اس قوم کے لئے نجات دہندہ شبلی ہیں۔“ آپ کی وفات ۸۷ سال کی عمر میں ۴۲۳ھ میں خلیفہ مقتدر کے عہد حکومت میں ہوئی۔ بغداد میں دفن ہوئے۔ (مرآة الاسرار ص ۳۷۳)

(۶۰) امام موسیٰ رضا :- آپ ائمہ اہل بیت میں آٹھویں امام ہیں۔ ولادت

مدینہ منورہ میں ۴۸۸ھ میں اور دوسری روایت کے مطابق ۵۳ھ میں ہوئی۔ اسم مبارک علی تھا۔ کنیت ابوالحسن اور ابو محمد اور القاب رضا، مرتضیٰ، ضامن و صابر تھے۔ آپ کی عمر اپنے والد ماجد امام موسیٰ کاظم کی وفات کے وقت تینتیس سال تھی کہ آپ مسند خلافت پر بیٹھے۔ آپ سے اس قدر کلمات حقائق اور خوارق عادات ظہور میں آئے کہ اہل بیت میں سے کسی سے ظاہر نہ ہوئے۔ کہتے ہیں کہ مامون الرشید پہلے تو آپ کو ولی عہد مقرر کرنا چاہتا تھا پھر خلاف ہو گیا اور اس نے آپ کو زہر دے کر

شہید کر ڈالا۔ وقت طوس (جو آج کل مشہد کے نام سے مشہور ہے) میں ۴۰۳ھ میں اور ایک روایت کے مطابق ۴۰۸ھ میں ہوئی۔ (مرآة الاسرار ص ۲۱۵)

(۶۱) امام موسیٰ کاظمؑ :- آپ آئمہ اہل بیت میں سے ساتویں امام ہیں۔ ولادت ۴۴۸ھ اسم شریف موسیٰ اور کمال علم اور غصہ و بانے کی وجہ سے آپ کا لقب کاظم ہو گیا تھا۔ اپنے والد ماجد امام جعفر صادقؑ کی وفات کے وقت آپ کی عمر ۲۰ سال تھی کہ منہ امامت پر متمکن ہوئے۔ ۴۸۳ھ میں بعد ہارون الرشید رحلت فرمائی۔ (مرآة الاسرار ص ۲۱۳)

(۶۲) امام جعفر صادقؑ :- آپ آئمہ اہل بیت میں سے چھٹے امام تھے۔ ولادت باسعادت ۴۸۳ھ میں ہوئی۔ اسم مبارک امام جعفر، کنیت ابو عبد اللہ، ابو اسمعیل اور القاب صادق، صابر اور فاضل تھے۔ آپ کے والد ماجد امام محمد باقرؑ کے وصال کے وقت آپ کی عمر ۳۳ سال اور ایک روایت کے مطابق ۳۱ سال تھی۔ آپ کے کمالات اور خوارق عادات شرق سے غرب تک مشہور ہیں۔ ۴۳۸ھ میں رحلت فرمائی۔ (مرآة الاسرار ص ۲۰۹)

(۶۳) امام باقرؑ :- آپ آئمہ اہل بیت میں سے پانچویں امام ہیں۔ آپ کا اسم شریف محمد، کنیت ابو جعفر اور القاب باقر و شاکر اور ہادی تھے۔ ولادت ۵۷ھ میں مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت حضرت امام حسنؑ تھیں۔ آپ امام برحق، جانشین پیغمبرؐ اور کلید حقائق و معارف تھے۔ ۴۴ھ میں ستاون سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا۔ مدت امامت ۱۹ سال تھی۔ مدفن جنت البقیع میں آپ کے والد ماجد امام زین العابدینؑ کے مزار کے پاس ہے۔ (مرآة الاسرار ص ۲۰۸)

(۶۴) امام زین العابدینؑ :- آپ آئمہ اہل بیت میں سے چوتھے امام ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ شہربانو بنت یزدجرد شاہ ایران تھیں۔ ولادت باسعادت ۳۸ھ میں ہوئی۔ اسم شریف علی اور کنیت ابو محمد اور ابو القاسم تھی۔ آپ کے القاب زین العابدین، ذکی اور امین ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے وقت دو سال کے تھے اور واقعہ کربلا کے وقت آپ کی عمر ۲۳ سال تھی۔ حضرت امام حسینؑ کی شہادت

کے بعد مسند امامت پر بیٹھے۔ ۵۷ھ میں ولید بن عبدالملک کے عہد میں ستاون سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا اور جنت البقیع میں حضرت امام حسنؑ کے پہلو میں دفن ہوئے۔ (مرآة الاسرار ص ۲۰۷)

(۶۵) غوث :- رجال اللہ کی دوسری قسم ہے۔ اس کا مرتبہ قطب کے بعد ہے۔ بعض بزرگوں کے نزدیک قطب اور غوث ایک ہی چیز ہیں۔ مگر بقول حضرت محی الدین ابن عربیؒ قطب الاقطاب اور غوث جدا ہیں۔ بعض کے نزدیک قطیت اور غوثیت دو جدا گانہ منصب ہیں جو ایک ہی شخص میں مجتمع ہو سکتی ہیں، قطیت کے اعتبار سے قطب اور غوثیت کے اعتبار سے غوث کہتے ہیں۔ (سر دلبران)

(۶۶) قطب :- رجال اللہ کی پہلی قسم اقطاب ہے۔ قطب عالم سارے جہان اور زمانے میں ایک ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت یعنی عالم سفلی اور علوی کے تمام موجودات (مخلوق) قطب عالم کے وجود سے قائم ہوتے ہیں۔ اسے قطب کبریٰ، قطب ارشاد، قطب الاقطاب اور قطب مدار بھی کہتے ہیں۔ بارہ اقطاب اور ہیں۔ ان میں سے سات قطب سات اقلیم میں ہوتے ہیں۔ اور باقی پانچ میں سے ہر ایک، ایک ایک ولایت میں ہوتا ہے اسے قطب ولایت کہتے ہیں۔ (مرآة الاسرار ص ۹۱، ۹۳)

(۶۷) لٹ کپ :- مرید بناتے وقت اس کے بالوں کی ایک لٹ کٹ دیتے تھے۔ خاص مرید، نائب، خلفاء بخلاف مریدان عام۔

(۶۸) قوم مرٹل :- راجپوتوں کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ کرنال سے نکل ہوئے۔ ملتان تحصیل میں قصبہ نامی گاؤں انہی کا بسایا ہوا ہے۔ پہلے نام کا سابقہ رائے لکھتے تھے اب چودھری لکھتے ہیں۔ ملتان کے جنوب اور شجاع آباد تحصیل کے شمال میں ان کے بہت سے گاؤں ہیں۔ تحصیل ملتان میں خانپور مرٹل، عنایت پور مرٹل وغیرہ۔ (گزسٹر آف ملتان ۱۹۰۷-۱۹۰۸ ص ۱۳۷)

(۶۹) فخر الدین عراقی :- مشہور شاعر اور صوفی۔ پورا نام شیخ فخر الدین ابراہیم۔ حمدان کے قریب پیدا ہوئے۔ شیخ شہاب الدین سمورویؒ کے مرید ہوئے۔ انہوں نے انہیں عراقی تخلص عطا فرمایا۔ انہی کے حکم سے ملتان آکر شیخ بہاء الدین

زکریا کے فیضِ محبت سے روحانی اور باطنی دولت سے مالا مال ہوئے۔ آپ کی شادی بھی حضرت بہاء الدین کی صاحبزادی سے ہوئی۔ (بقول مولانا جمالیؒ آپ شیخ بہاء الدین زکریا کے بھانجے تھے۔ سیر العارفین) مغلوب الحلال ہو کر اپنے جذبات کا اظہار شعرو شاعری میں کرتے تھے۔ یہ مشہور غزل انہی کی ہے جس کا مطلع ہے۔

نخستین بارہ کاندہ جام کردند ز چشم مست ساقی وام کردند
نجات الانس جانی کے مطابق سن وقت ۱۶۸۸ء ہے۔ (برہم صوفیہ از صباح الدین عبدالرحمن)

(۷۰) محمد تعلق بادشاہِ دہلی۔ عہد حکومت ۱۷۲۵ء تا ۱۷۵۲ء

(۷۱) لعل شہباز قلندر۔ نام عثمان، ہرات کے گاؤں مروند یا سمند میں ۱۵۸۳ء میں پیدا ہوئے۔ جوانی میں ہندوستان کی سیاحت کو نکلے شیخ منصور سے تحصیل علم کے بعد ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ بعد میں شیخ بہاء الدین زکریا، شیخ فرید گنج شکر اور شیخ جلال بخاری کی معیت میں ہند کے مختلف حصوں کی سیر کی اور چار یار مشہور ہوئے۔ ملتان آئے تو شہزادہ محمد بن غیاث الدین بلبن بڑے احترام سے پیش آیا۔ ۱۷۳۹ء میں سیون یا سون (سندھ) چلے آئے۔ ۱۷۷۳ء میں وقت پائی۔ فرقہ ملا جینہ سے تعلق تھا۔ نشہ آور اشیاء کھانے اور پینے کی وجہ سے قلندر مشہور ہوئے۔ سرخ لباس پہنتے تھے اس لئے لعل شہباز کے نام سے معروف تھے۔ کبھی کبھی شعر بھی کہتے تھے۔

(پاکستان میں قاری ادب، ڈاکٹر ظہور الدین احمد، یونیورسٹی بک ایجنسی انارکلی، لاہور، ۱۹۷۳ء)

جامع الکرامات میں مذکور واقعہ حضرت بہاء الدین کے سلسلہ ارادت میں شامل ہونے سے پہلے کا معلوم ہوتا ہے۔

(۷۲) قاضی قطب کاشانی۔ مزار قلعہ ملتان پر ہے۔

(۷۳) مخدوم حسن بلا انگن۔ آپ کا مزار بہاول گڑھ ضلع لودھراں نزد ملتان میں ہے۔

(۷۳) رای الونہ یا لونہ کچی نہ۔ کچی چوہان راجپوتوں کی ایک شاخ ہے۔ یہ کچی خان کی نسل سے ہیں جو اجمیر کا حکمران تھا۔ بعد میں اس نے دہلی پر قبضہ کر لیا جہاں سے مسلمانوں نے اسے نکال باہر کیا۔ اس کے اخلاف سیساؤ (Sisau) اور وادن (Vadan) مغل حکمرانوں کے عہد میں ملتان منتقل ہو گئے۔ رائے لونا کچی، سخی دیل (Dalail) اور علی خان کے نام اب بھی مشہور ہیں۔ میلی کے اردگرد کچیوں کی ملکیت میں کئی گاؤں ہیں۔

(حوالہ گزسٹر آف ملتان ص ۱۳۰)

(۷۵) راج گڑھ نہ۔ موجودہ نام راج بھڑ، قصبہ دنیا پور ضلع ملتان سے تین کوس مشرق میں سلطان ایوب قتل کے مزار سے مشرقی سمت میں واقع ہے آباد جگہ ہے۔

(۷۶) جعد تراشی نہ۔ نوزائیدہ بچے کا سر موٹا۔ اس موقع پر خوشی مناتے اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔

(۷۷) قلعہ صدر الدین پور نہ۔ صدر پور سلطان ایوب قتل کی خانقاہ کے جنوب میں دو میل کے فاصلے پر ہے۔ آج کل غیر آباد ہے۔ سلطان ایوب قتل کا مزار قصبہ دنیا پور ضلع ملتان سے تین کوس مشرق میں خضر پور میں ہے۔ جسے آج کل مائی منوری کا بٹہ کہتے ہیں۔

(ڈائرکٹری یعنی فہرست مواضع ضلع ملتان ۱۹۰۲ء، ڈائرکٹری زراعت پنجاب، منشی گلاب سنگھ اینڈ سنز لاہور)

(۷۸) بھٹہ نہ۔ ارائیں ذات، پنجاب میں بھٹہ، سندھ میں بھٹو کہتے ہیں۔

(۷۹) حجہ واہمن نہ۔ لودھراں کے علاقے کا ایک گاؤں

(۸۰) ماڑی رشید پور نہ۔ ماڑی: بجل، بلند مکان، آبادی کا نام۔ ماڑی رشید پور ملتان سے بارہ تیرہ میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ آج کل اس قصبے کو مخدوم رشید کہتے ہیں۔ یہاں مخدوم عبدالرشید حقانی کا مزار مبارک ہے۔

(۸۸) اوترا تہ زمینداروں کا ایک خاندان۔

(۸۹) طی المکان تہ معنی طی الارض۔ تصوف کی اصطلاح۔ ولی کے لئے

زمین کا سمٹ جانا۔ چند لمحوں میں دو دراز ممالک میں پہنچ جانا۔ رجال اللہ کی چند

کرامت یہ ہیں۔ طے ارضی، بغیر کشتی کے پانی پر چلنا، ہوا میں اڑنا، دور رہنے والے

بزرگوں کے پاس تھوڑی دیر میں پہنچ جانا، لوگوں کی آنکھوں سے گم ہو جانا اور تنگ

مکان میں جمع ہو جانا کہ اہل ظاہر میں سے کوئی ان کو نہ دیکھ سکے اور نہ ان کے سائے

کو دیکھ سکے اور نہ انکی آواز کو سن سکے، بلوجودیکہ وہ لوگوں کے سامنے باآواز بلند قرآن

پڑھتے ہیں۔ اشعار گاتے ہیں، اہل سماع کے درمیان رقص کرتے ہیں اور روتے ہیں

لیکن کوئی شخص ان کو نہیں دیکھ سکتا اور نہ ان کی آواز یا حرکات کو کوئی سمجھ سکتا

ہے۔ کیمیاگری جانتے ہیں اور جب کبھی کسی حاجت مند کو ضرورت ہوتی ہے سونا

چاندی بنا کر ان کو دے دیتے ہیں اور اپنے نفس کے لئے کچھ نہیں رکھتے۔ اس کے

علاوہ وہ ایسے خواص رکھتے ہیں کہ دیکھ کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔

(مرآة الاسرار عبدالرحمن چشتی، اروو ترجمہ از واحد بخش سیال ص ۸۹)

کتابیات

- 1- اخبار الاخبار، عبدالحق محدث دہلوی، اردو ترجمہ
- 2- آرکیالوجیکل سروے رپورٹ، جلد پنجم اے کنگھم بحوالہ گزیٹو آف ملتان 02-1901ء
- 3- آرمی ہسٹری آف ملتان، خان بہادر سید محمد لطیف، لاہور بحوالہ مضمون بعنوان شاہ گردیز از سید حسن رضا گردیزی، فارسی پاکستانی و مطالب پاکستان شناسی جلد دوم۔
- 4- انوار غوثیہ مؤلفہ خان بہادر مخدوم حسن بخش قریشی سجادہ نشین ملتان۔ سرورق افتادہ۔
- 5- انوار غوثیہ خان بہادر مخدوم حسن بخش قریشی کی دو نقش غلطیوں کا اظہار، مولف نامعلوم، اول افتادہ
- 6- اولیائے ملتان، نذر محمد سیرانی، کتب خانہ حاجی نیاز احمد، اندرون بوہڑ گیٹ ملتان، 1982ء
- 7- اینٹنٹ جیو گرافی آف انڈیا، اے کنگھم، بحوالہ گزیٹو آف ملتان 2-1901ء
- 8- بزم صوفیہ، صباح الدین عبدالرحمن، نفیس اکیڈمی کراچی، 1987ء
- 9- پاکستان میں فارسی ادب، ڈاکٹر ظہور الدین احمد، یونیورسٹی بک ایجنسی انارکلی لاہور، 1964ء
- 10- تاریخ ضلع ملتان، فنی حکم چند، لاہور 1894ء
- 11- تذکرہ مشائخ کرام، تاریخ فرشتہ باب دوم کا اردو ترجمہ، محمد قاسم فرشتہ۔ احسن برادرز، اظہار مارکیٹ لاہور 1965ء
- 12- تذکرہ الملتان از مخدوم سید محمد یوسف، ذکر چہارم، بحوالہ مضمون از سید حسن رضا گردیزی محولہ بالا۔
- 13- ٹریولرز بزبان انگریزی، مین، جلد اول، بحوالہ گزیٹو آف ملتان 02-1901ء
- 14- تذکرہ حضرت بہاء الدین زکریا، نور احمد فریدی، قصر الادب نور محل براستہ شجاع آباد ملتان 1954ء، محکمہ اوقاف لاہور 1980ء
- 15- تذکرہ حضرت صدر الدین عارف، نور احمد فریدی، قصر الادب جگنو والا براہ

لودھراں 1958ء

16- تذکرہ حضرت موسیٰ نواب، پروفیسر سعید احمد سعید، قصر الادب سرواہی ضلع رحیم یار خان 1981ء

17- جامع الکرامات قلمی، شیخ شرف الدین قریشی، مخزنہ حکیم محمد غوث ملتان بوساطت مشتاق احمد شاہ میانپوری۔

18- حدیقتہ الاولیاء مفتی غلام سرور لاہوری، اردو ترجمہ محمد اقبال مجددی، اسلامک بک فاؤنڈیشن، 1976ء، لاہور۔

19- حیاۃ العیوان الکبریٰ: کمال الدین محمد بن موسیٰ الدیمیری، مطبوعہ 1970ء، جلد دوم۔

20- خزینتہ الاصفیاء، مفتی غلام سرور لاہوری،

21- خلاصتہ العارفین اردو ترجمہ شائع کردہ ملک فضل الدین ملک چمن الدین ملک تاج الدین ککے زائی، تاجران کتب قومی، کشمیری بازار لاہور سن طباعت 7 اپریل 1909ء

22- خلاصتہ المناقب، نور الدین جعفر بدخشی مرتبہ دکترا سیدہ اشرف ظفر مقالہ پی ایچ ڈی، پشگتار۔

23- ڈائرکٹری یعنی فہرست مواضع ضلع ملتان 1902ء ڈائرکٹر زراعت پنجاب، فشی گلاب سنگھ اینڈ سنز لاہور۔

24- سردلبران، محمد ذوقی۔

25- سہرورد، مجلہ شمارہ 8، جنوری 1989ء سہروردیہ فاؤنڈیشن 115 میکلوڈ روڈ لاہور

26- سیر الاقطاب بحوالہ حاشیہ اردو ترجمہ حدیقتہ الاولیاء۔

27- سیر العارفین، مولانا حامد فضل اللہ جمالی، اردو ترجمہ محمد ایوب قادری، مرکزی اردو بورڈ لاہور۔

28- نیرت ابن ہشام۔

29- گزیٹو آف ملتان 1902ء-1901ء بزبان انگریزی از ای۔ ڈی میکلیگن۔

30- لغت نامہ، علامہ علی اکبر دہخدا، ایران۔

31- مخزن چشت، اردو ترجمہ، چشتیہ اکادمی، فیصل آباد، 1989ء

32- مرآة الاسرار، قلمی، مخزنہ کیپٹن واحد بخش سیال، لاہور

33- _____ قلمی، مخزنہ خدا بخش لاہوری، پٹنہ (بھارت)

34- مرآة الاسرار، اردو ترجمہ از واحد بخش سیال، 1411ھ، بزم اتحاد المسلمین طارق روڈ، لاہور کینٹ۔

35- مرقع ملتان، اولاد علی گیلانی، 1938ء۔

36- نوائے وقت ملتان (روزنامہ) 4 جولائی 1991ء

اشاریہ

اشخاص

(آ)

صفحات

10 2

آدم

10

آذر بن باخو

10

آذر بن حمیع

10

آرغو

(ا)

10

ایراہیم

46

(شیخ) ابن

13

ابن سعود

46

ابوالمحق بن زین الدین

15

ابو الفتح بن عبد اللہ

28

ابو الفتح قوم منزل

29 25

ابوالفرح طرطوسی

44 16 15 14

(سلطان) ابوبکر

10

ابوبکر

45

(مخدوم) ابوبکر بن سلطان ایوب قال

45 38 37 35 34 28 22

(مخدوم) ابوبکر بن عبدالرشید

36 35 34

ابو صالح

43 17

ابو یصاحب

45

(شیخ) احمد بن مخدوم عالم

44 21 20 19 17 16 15

(شیخ) احمد غوث

44

(مخدوم) احمد غوث بن شیخ ابوبکر

17

(شیخ) احمد خضرویہ

10	اختوخ
10	اد
10	اسد
10	اسلعيل
45 '34	رائے الوند کچھی
10	الياس
17	امام اعظم
3	امیر تاج الدین
10	انوش
45 '43 '41 '42 '40 '39 '38 '18 '2 '1	(مخدوم العالم) ایوب قتال قریشی
41 '40	(سید) ایوب ماچینی

(پ)

45 '43	(مخدوم) بایزید
45	(شیخ) بدہ
23	(مولانا) برهان الدین
46	(شیخ) برهان الدین بن زین الدین
10	بشرب
45 '37 '36 '34 '33 '32 '31 '30 '28 '27 '24 '23 '22 '21 '19 '2	(شیخ) بہاء الدین (بہاء الحق)
10	بیارد
23 '20	بی بی بصران خاتون

(ت)

3	(امیر) تاج الدین
46	تاج الدین بن شمس الدین
29 '28 '27	تاج الدین مزل
22	تارنگھ پیر ایسر

30

(سلطان) محمد تقی

(ث)

10

ثابت

(ج)

25

امام جعفر صادقؑ

14 '13 '12

(سلطان شیخ) جلال الدین

37 '36 '28 '14 '13 '11 '2

(سید) جلال الدین بخاریؒ

24

جلال الدین تبریزیؒ

20 '19

شیخ جمال الدین سلیمانؒ

35

جمال درویش

20

بی بی جنت خاتون

20

(شیخ) جیلانیؒ

37

(رائے) بیون

(ح)

19 '10

(شیخ) حسن

45 '44 '40 '35 '34 '33 '32 '31

(محمد) محمد حسن

19

(شیخ) حسن دہلوی

12 '11 '10 '6 '3

(شیخ) حسین

10

حل

(خ)

10

خادم

10

قدیمت

10

نور

17'14

خضر علیہ السلام

(و)

44'20

داود لریا

37

(رائے) دیون

(ر)

45

راج کنول

46

راجو بن ابوالخلیق

7'6'5

راجہ تمبوره

13'11'8

راجہ جیسلی

8'7'6'5'1

راجہ دیپال

45

مخدوم رحمت اللہ

46'44

مخدوم رکن الدین بن صدر الدین

45

مخدوم رکن الدین بن سلطان ایوب قتال

(ز)

19

زبیدہ جیلانی

46

مخدوم زین الدین

44

مخدوم زین الدین بن صدر الدین

25

امام زین العابدینؑ

(س)

44'20

(شیخ) سادھن

35'34

سارنگ

10

سام

45

سراج الدین بن مخدوم محمد بن عبدالرشید حقانی

10

19 '14

40

سلمان

(شیخ الشانغین) سلطان علی

(شیخ سلیمان)

(ش)

10

45

25

1

23 '11 '9 '8 '6 '5 '4 '3 '2 '1

23

46

9 '8 '6

10

شارخ

شاه درویش

شیخ شلی

شیخ شرف الدین قریشی

شیخ شمس الدین (شیخ المشائخ)

مولانا شمس الدین

شمس الدین بن زین الدین

شباب الدین غوری

شیب

(ص)

10

45 '44 '43 '41 '38 '37 '36 '35 '23

صالح

(شیخ صدر الدین)

(ض)

23

مولانا ضیاء الدین

(ط)

44 '20

3

(شیخ طاہر)

طفون بیگ

(ع)

45 '43	(مخدوم) عالم بن سلطان ابوب قال
10	عامر
44 '20	شیخ عبدالرحمن
10	شیخ عبدالرحیم
30 '29 '28 '27 '26 '25 '24 '23 '22 '21 '20 '2 '1	مخدوم عبدالرشید حقانی
46 '44 '40 '39 '37 '36 '35 '34 '33 '32 '31	
40	(شیخ) عبدالعزیز
45	(مخدوم) عبدالعزیز بن رکن الدین
1	(شیخ) عبدالغفور
20 '18	عبدالقادر جیلانی
27	(شیخ) عبداللہ
7 '6	عبداللہ ابن سعید
45	(مخدوم) عبداللہ بن رکن الدین
46 '44	(مخدوم) عبداللہ بن صدر الدین
10	عبداللہ بن عبدالمطلب
6 '3	(شیخ) عبداللہ حسین
10	عبدالمطلب
25	شیخ عبدالواحد
10	عبد مناف
10	عثمان
10	عمران
35 '23	مولانا علاء الدین
10	علی
19 '14	سلطان علی (سلطان ابوبکر)
26 '25 '24 '23	سید علی ہمدانی
10	عمر

10

عیاذ بن اسد

10

عیاذ بن اسد بن عبدالعزیز

10

عیاذ بن عبدالرحیم

45

(مخدوم) عیسیٰ بن مخدوم حسن

22 '21 '20 '19 '18

(شیخ) عیسیٰ گیلانی

(غ)

10

طالب

(ف)

22 '18

بی بی فاطمہ

10

فاتح

28

(شیخ) فخر الدین عراقی

34 '33 '2

فرید الدین گنج شکر

10

فر

(ق)

45

(مخدوم) قاسم بن مخدوم محمد بن عبدالرشید حقانی

35 '23

(مولانا) قعدۃ الدین

10

قصی

32

قاضی قطب کاشانی

10

قیدار

10

قینان

(ک)

45

کرم اللہ بن مخدوم محمد بن عبدالرشید حقانی

45

مخدوم کرم اللہ

10

کعب

10	کتاب
24 '19 '18 '17	شیخ کمال الدین
21	شیخ کمال الدین محمد عیسیٰ
45 '22 '19	بی بی کمال خاتون
11 '10	کتاب

(ل)

12	لاکھا راجہ
45 '38	لعل خانہ
32	لعل شہباز
10	لوی

(م)

10	مارخ
10	مالک
45	مخدوم مبارک
10	متوشلخ
18 '17 '11 '10 '9 '5 '2	خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ
39 '29 '25 '24 '21	
46 '45	(مخدوم) محمد بن صدر الدین
45 '40 '35 '34	(مخدوم) محمد بن عبدالرشید
40 '35 '32	محمد حسن
45	محمد داؤد
45 '40 '38 '35 '34 '22 '21 '20 '19 '17 '16 '15	(شیخ) محمد غوث
46	محمد مسلم شاہ
17	محمد نور اللہ
45	محمد یعقوب

43 '22	(شیخ) محمد یوسف شاہ گردیز
16 '15	محمود اوجینی
10 '9 '8 '6 '5 '4	(سلطان) محمود غزنوی
18	مخدوم العالم
10	مدرک
10	مرۃ
15 '14 '11 '10	مسعود ابن عرب
10	مصلیح
10	مضر
10	مطرف
10	مطلب
10	مطابیح
10	معد
45 '31	(بیگم) معظم خاتون
10	معین
45	معین الدین
44 '21	(شیخ) ملاں فقیر علی
3	ملک تمار مروانی (مروان الحمار)
45	مخدوم موسیٰ بن مخدوم یوسف
25	امام موسیٰ رضا
25	امام موسیٰ کاظم
44 '20	(شیخ) موسیٰ نواب
12	(مونی) محی الدین
10	مسائل
46	میاں کالو

(ن)

10	تاخوڑ
24	(شیخ) نجم الدین
10	زار
45	(مخدوم) نصر اللہ
24	نصیر الدین
21	نصیر الدین بلخی
11 10	نضر
10	نوح

(و)

10	واقفی
1	(شیخ) وجیرہ الدین
17	وجیرہ الدین محمد غوث

(ھ)

10	حاشم
7	ہربال
45	(مخدوم) ہود بن ابوبکر بن عبدالرشید حقانی
10	ہود بن ارفخشذ
10	ہمکین
10	ہمیع

(ی)

45 38	(مخدوم) یعقوب
45 43	(مخدوم) یوسف
44	(شاہ) یوسف

مقامات

صفحات	(ا)	
16 15		اوچمن
	(ب)	
21		بخارا
21 20 18 17		بخارا
21 17		بخارا
17		بیت اللہ
10		بیکانیر
	(ت)	
24		تھمز
6		تانبہ
7 6 1		تھمز
7		تورہ ابو سعید مائتین
	(ث)	
11		تھمز
	(ج)	
37		جبد وامن
10		جودہ پور

16 15 11 10 9

10 9

10

حیدرآباد

میں

ہے

(ج)

46

12 11

چاہ مقیم والا

چترال

(ج)

24 23

17

حرمین شریفین

حصار شادمان

(خ)

21

1

43 42

3 1

خراسان

خٹال

نصرت پور

خوارزم

(ب)

17

31 30

16 11 9 8 7

بمشق

عمل

دیپال پور

(ر)

35 34

28 27

راج پور

ہے

(ز)

5

زابل

(س)

24

سکندریہ

12

سندھ

(ص)

38 '37 '35

صدر الدین پور

(ع)

3 '1

عرب

(غ)

21 '16 '5 '4 '1

غزنی

(ق)

46

قصبہ مڑلاں

(ک)

5

کابل

22 '21 '19 '16 '15 '14 '13 '12 '11 '10 '7 '6

کوٹ کوڑ

44

کمر کمرانی

19

کھوتوال

(ل)

31 '10 '9 '1

لاہور

(م)

38 '37

3

46 '34 '32 '30 '28 '27 '26 '24 '23 '22 '18 '1

ماڑی رشید پور

مکہ معظمہ

مکّان

(ن)

10

ٹانور

(ه)

33

24

25 '24 '23

14 '13 '9 '5 '4 '1

حانسی نار

ہریو

ہمدان

ہند

ابو محمد مخدوم زادہ
مشتاق احمد شاہ میاں پوری
(حال مقیم لاہور)

مختصر شجرہ نسب اولاد

۱۔ حضرت مخدوم عبد الرشید حقانی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مخدوم حسن

حضرت مخدوم محمود حضرت مخدوم محمد ۲۔ حضرت مخدوم صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مخدوم حسن

۳۔ حضرت مخدوم رکن الدین رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مخدوم محمود حضرت مخدوم عبد اللہ

۴۔ حضرت مخدوم شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ

۵۔ حضرت مخدوم تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ

۶۔ حضرت مخدوم ادیس رحمۃ اللہ علیہ

۷۔ حضرت مخدوم قائم الدین رحمۃ اللہ علیہ

۸۔ حضرت مخدوم غیاث الدین رحمۃ اللہ علیہ

۹۔ حضرت مخدوم گانمن شاہ رحمۃ اللہ علیہ (اصل میں یہ نام غلام محمد شاہ ہے،
پیار میں گانمن شاہ کہا گیا ہے)

۱۰۔ حضرت مخدوم عبد الغفور شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ درگاہی شاہ

(ان کی اولاد موضع میاں پور جہانیاں، خانیوال میں آباد ہے)

۱۱۔ حضرت مخدوم صادق شاہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت مخدوم روشن شاہ ۱۲۔ حضرت مخدوم کرم شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت پہلوان شاہ

۱۳۔ حضرت مخدوم گل شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مخدوم شہاد شاہ

۱۴۔ حضرت مخدوم زیارت شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مخدوم شہین شاہ حضرت مخدوم امیر شاہ
حضرت مخدوم کبیر شاہ

۱۵۔ حضرت مخدوم جمال شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مخدوم گل شاہ حضرت مخدوم گل شاہ
(المعروف نادر شاہ) حضرت مخدوم گل شاہ

۱۶۔ حضرت نو بہار شاہ رحمۃ اللہ علیہ

۱۷۔ حضرت مخدوم محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مخدوم چراغ شاہ

۱۸۔ حضرت مخدوم سرور شاہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مخدوم فتح شاہ

۱۹۔ حضرت مخدوم نو بہار شاہ رحمۃ اللہ علیہ

۲۰۔ حضرت مخدوم حاجی سرور شاہ رحمۃ اللہ علیہ مخدوم نواز شاہ، مخدوم مجتبیٰ شاہ

۲۱۔ ابو محمد مشتاق احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ مخدوم زادہ ظفر حسین شاہ
مخدوم زادہ شوکت حسین مخدوم زادہ ظفر حسین

حافظ محمد شاہ - احمد شاہ

- ① یہ شجرہ مبارکہ مرتبہ بحکم مہتمم ہندو لست بال سنہ ۱۸۷۰ء بم اکتوبر اور صدقہ ۲۳ جولائی ۱۹۳۶ء سے ماخوذ ہے۔
- ② شجرہ مرتبہ ۱۹۴۴-۴۵ء بموقع تقسیم زمین جدی سے ماخوذ ہے۔
- ③ شجرہ قدیم جدی جو پشت بہ پشت چلا آ رہا ہے پر سنہ وغیرہ درج نہیں ہے۔